

DIRECTORATE OF EDUCATION

Govt. of NCT of Delhi

SUPPORT MATERIAL (2023-2024)

Class : X

MATHEMATICS

(Urdu Medium)

Under the Guidance of

Sh. Ashok Kumar

Secretary (Education)

Sh. Himanshu Gupta

Director (Education)

Dr. Rita Sharma

Addl. DE (School & Exam)

Coordinators

Mr. Sanjay Subhash Kumar **Mrs. Ritu Singhal** **Dr. Raj Kumar** **Mr. Krishan Kumar**
DDE (Exam) OSD (Exam) OSD (Exam) OSD (Exam)

Production Team

Anil Kumar Sharma

Published at Delhi Bureau of Text Books , 25/2 Institutional Area, Pankha Road, New Delhi-110058 by **Rajesh Kumar**, Secretary, Delhi Bureau of Text Books and Printed by Supreme Offset Press, Greater Noida, U.P.

**ASHOK KUMAR
IAS**



सचिव (शिक्षा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार

पुस्तकालय, दिल्ली-110054

फोन: 23890187 टेलीफैक्स: 23890119

Secretary (Education)

Government of National Capital Territory of Delhi

Old Secretariat, Delhi-110054

Phone : 23890187, Telefax : 23890119

E-mail : secyedu@nic.in

DO No. PS/SE/2022/231
06/09/2022

Message

Remembering the words of John Dewey, "Education is not preparation for life, education is life itself", I highly commend the sincere efforts of the officials and subject experts from Directorate of Education involved in the development of Support Material for classes IX to XII for the session 2022-23.

The Support Material is a comprehensive, yet concise learning support tool to strengthen the subject competencies of the students. I am sure that this will help our students in performing to the best of their abilities.

I am sure that the Heads of Schools and teachers will motivate the students to utilise this material and the students will make optimum use of this Support Material to enrich themselves.

I would like to congratulate the team of the Examination Branch along with all the Subject Experts for their incessant and diligent efforts in making this material so useful for students.

I extend my Best Wishes to all the students for success in their future endeavours.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ashok Kumar".

(Ashok Kumar)

HIMANSHU GUPTA, IAS
Director, Education & Sports

PS|DE|2022| 311



Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Room No. 12, Civil Lines
Near Vidhan Sabha,
Delhi-110054
Ph.: 011-23890172
E-mail : diredu@nic.in

06 | 09 | 2022

MESSAGE

"A good education is a foundation for a better future."

- Elizabeth Warren

Believing in this quote, Directorate of Education, GNCT of Delhi tries to fulfill its objective of providing quality education to all its students.

Keeping this aim in mind, every year support material is developed for the students of classes IX to XII. Our expert faculty members undertake the responsibility to review and update the Support Material incorporating the latest changes made by CBSE. This helps the students become familiar with the new approaches and methods, enabling them to become good at problem solving and critical thinking. This year too, I am positive that it will help our students to excel in academics.

The support material is the outcome of persistent and sincere efforts of our dedicated team of subject experts from the Directorate of Education. This Support Material has been especially prepared for the students. I believe its thoughtful and intelligent use will definitely lead to learning enhancement.

Lastly, I would like to applaud the entire team for their valuable contribution in making this Support Material so beneficial and practical for our students.

Best wishes to all the students for a bright future.

(HIMANSHU GUPTA)

Dr. RITA SHARMA
Additional Director of Education
(School/Exam)



Govt. of NCT of Delhi
Directorate of Education
Old Secretariat, Delhi-110054
Ph.: 23890185

D.O. No. PS/Addl.DE/sch/2022/131
Dated: 01 सितम्बर, 2022

संदेश

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने अपने विद्यार्थियों को उच्च कोटि के शैक्षणिक मानकों के अनुरूप विद्यार्थियों के स्तरानुकूल सहायक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। कोरोना काल के कठिनतम समय में भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की निर्वाचित रूप से संचालित करने के लिए संबंधित समस्त अकादमिक समूहों और क्रियान्वित करने वाले शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हैं।

प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की सहायक सामग्रियों में सी.बी.एस.ई. के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। साथ ही साथ मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इन सहायक सामग्रियों में कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री को भी सरलतम रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि शिक्षा निदेशालय के विद्यार्थियों को इसका भरपूर लाभ मिल सके।

मुझे आशा है कि इन सहायक सामग्रियों के गहन और निरंतर अध्ययन के फलस्वरूप विद्यार्थियों में गुणात्मक शैक्षणिक संवर्धन का विस्तार उनके प्रदर्शनों में भी परिलक्षित होगा। इस उन्नत सहायक सामग्री को तैयार करने में शामिल सभी अधिकारियों तथा शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूँ तथा सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ।

रीता शर्मा
(रीता शर्मा)

**DIRECTORATE OF EDUCATION
Govt. of NCT, Delhi**

**SUPPORT MATERIAL
(2023-2024)**

**MATHEMATICS
(Urdu Medium)**

Class : X

NOT FOR SALE

PUBLISHED BY : DELHI BUREAU OF TEXTBOOKS

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ^१[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ^२[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the **[unity and integrity of the Nation];**

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949 do
**HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।



Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
- *(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).



Team Members for Review of Support Material

S.No.	Name & Designation	Shool Name/Branch
1.	Mr. Narender Kumar Vice- Principal Group Leader	GBSSS Prashant Vihar, Delhi
2.	Mr. Tushar Saluja TGT (Maths)	Core Academic Unit, Exam Branch, DoE, Delhi
3.	Mr. Naveen Sangwan TGT (Maths)	Core Academic Unit, Exam Branch, DoE, Delhi
4.	Mr. Manish Jain TGT (Maths)	Sarvodaya Vidyalaya, Sector-III, Rohini, Delhi
5.	Mr. Abadhesh Kumar Singh TGT (Maths)	Sarvodaya Co. Ed. Vidyalaya, Mukhimpur Delhi
6.	Mr. Nitin Bhardwaj TGT (Maths)	R.P.V.V Phase-II, Sector 21, Rohini, Delhi
7.	Mr. Mohammad Sharib Azeem TGT (Maths)	Dr. Zakir Husain Mem. Sr. Sec. Shool, Jafrabad, Delhi

فہرست مضمایں

صفحہ نمبر

نمبر شمار باب

-1 حقیقی اعداد

-2 کشیر کیناں

-3 دو متغیر والی خطی مساواتوں کے جوڑے

-4 دو درجی مساواتیں

-5 حسابی تصادع

-6 مثلث (Triangles)

-7 مختص جیو میٹری

-8 ٹرگنومیٹری کا تعارف

-9 ٹرگنومیٹری کے کچھ استعمال

-10 دائرے

-11 دائروں سے متعلق رقبے

-12 سطحی رقبہ اور جنم

-13 شماریات

-14 احتمال

-15 نظری مطالعہ پرمنی سوالات

-16 دعوئی اور وجہ وآلے سوالات

-17 سوال نامہ برائے مشق-I

-18 سوال نامہ برائے مشق-II

باب 1

حقیقی اعداد (Real Numbers)


بہت مختصر جواب والے سوالات

-1 ایک عدد N کو 16 سے تقسیم کرنے پر 5 باقی پہنچتا ہے۔ اگر اس عدد کو 8 سے تقسیم کیا جائے تو باقی ہو گا۔

$$\dots\dots\dots\dots = \text{HCF} k \quad 3^4 \times 5^2 \text{ اور } 3^3 \times 5^4 \quad -2$$

$$\dots\dots\dots\dots = \text{LCM}(a, b) \quad a = x^3 y^2 \text{ اور } b = x^3 y^5 \text{ جہاں } x \text{ اور } y \text{ مفرد اعداد ہوں تو} \quad -3$$

-4 اگر x اور y کی قدر معلوم کیجیے۔



-5 اگر n ایک حقیقی عدد ہے تو $9^{2n} - 25^{2n}$ تقسیم ہو گا۔

(d) ان میں سے کوئی نہیں
16 اور 34 دونوں سے (c) 34 (b) 16 (a)

-6 دیا ہے: $k = \text{LCM}(2520, 6600) = 252k$ اور $\text{HCF}(2520, 6600) = 120$: k کی قدر ہے۔

1650 (d) 990 (c) 550 (b) 165 (a)

-7 سب سے چھوٹے مفرد اعداد سب سے چھوٹے غیر مفرد اعداد کے لیے HCF اور LCM کا حاصل ضرب ہے:

8 (d) 6 (c) 4 (b) 2 (a)

-8 اگر دو عدد کا LCM، 3600 ہے تو درج ذیل میں سے کون سا عدد ان کا HCF نہیں ہو سکتا؟

150 (d) 400 (c) 500 (b) 600 (a)

-9 وہ سب سے بڑا عدد کون سا ہے جس سے 30 اور 80 کو تقسیم کرنے پر 2 اور 3 باقی حاصل ہوتا ہے۔

7 (b) 18 (a)

11 (d) 14 (c)

- 10 سب سے چھوٹے مفرد عدد اور سب سے چھوٹے غیر مفرد عدد کے HCF اور LCM کی نسبت ہے:

2:1 (b) 1:2 (a)

1:1 (d) 1:3 (c)

- 11 تمام اعشار یا کم اعداد ہوتے ہیں:

غیر ناطق اعداد (b) ناطق اعداد (a)

صحیح اعداد (d) حقیقی اعداد (c)

- 12 ان میں سے کس عدد کا کامی کا ہندسہ 6 ہوگا

8^n (d) 6^n (c) 2^n (b) 4^n (a)


- 13 $2 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 + 21$ کے مفرد اجزاء کے ضربی لکھیے۔

- 14 کسی بھی طاق صحیح عدد کو متغیر t کا استعمال کرتے ہوئے عام شکل میں لکھیے۔

- 15 وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد معلوم کیجیے۔ جو 1 سے 10 تک (دونوں شامل ہیں) کے تمام عددوں سے تقسیم ہو جائے گا۔

- 16 عدو 525 اور 3000 اعداد 3, 15, 5, 3 اور 75 سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ 525 اور 3000 کا HCF معلوم کیجیے۔

- 17 معلوم کیجیے۔ $x:y$



مختصر جواب والے سوالات (Type-I)

- 18۔ دکھائیے کہ 12^n کبھی بھی 0 یا 5 پر ختم نہیں ہوگا (کسی بھی فطری عدد n کے لیے)
- 19۔ وہ سب سے چھوٹا عدد معلوم کیجیے جسے $\sqrt{2} - \sqrt{5}$ سے ضرب کرنے پر وہ ایک ناطق عدد بن جائے۔ اس طرح حاصل ہونے والا عدد کیا ہوگا؟
- 20۔ $\sqrt{3}$ اور $\sqrt{5}$ کے درمیان ایک ناطق عدد اور ایک غیر ناطق عدد معلوم کیجیے۔
- 21۔ اگر 144 اور 180 کے HCF کو $13m^3$ کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے تو m کی قدر معلوم کیجیے۔ (CBSE-2014)
- 22۔ $(-1)^n + (-1)^{2n} + (-1)^{2n+1} + (-1)^{4n+1}$ کی قیمت معلوم کیجیے۔ جہاں n ایک ثابت طاق صحیح عدد ہے۔ (CBSE-2016)
- 23۔ دونوں میٹکروں میں بالترتیب 850 لیٹر اور 680 لیٹر پیڑوں ہے۔ اس کنیٹر (Container) کی زیادہ سے زیادہ گنجائش معلوم کیجیے جو ان دونوں میٹکروں کا پیڑوں کا صحیح تاب سکے۔ (CBSE-2016)

مختصر جواب والے سوالات (Type-II)

- 24۔ 2658 کو اس کے مفرد اجزاء کے ضربی کے طور پر ظاہر کیجیے۔
- 25۔ اگر $7^{7560} = 2^p \times 3^q \times 7^r$ ہو تو p اور q معلوم کیجیے۔
- 26۔ ثابت کیجیے کہ $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ ایک غیر ناطق عدد ہے۔
- 27۔ ثابت کیجیے کہ $\frac{3}{\sqrt{3}} - 5$ ایک غیر ناطق عدد ہے۔
- 28۔ ثابت کیجیے کہ $\frac{1}{2 - \sqrt{5}}$ ایک غیر ناطق عدد ہے۔
- 29۔ مفرد اجزاء کے طریقے سے 56 اور 112 کا LCM اور HCF معلوم کیجیے۔
- 30۔ تائیے کہ مندرجہ ذیل مرکب عدد کیوں ہے؟
- | | |
|--|-------|
| $7 \times 11 \times 13 \times 15 + 15$ | (i) |
| $11 \times 13 \times 17 + 17$ | (ii) |
| $1 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 + 3 \times 7$ | (iii) |

- 31- صحن کی سیر کے دوران میں لوگ اپنے قدم ایک ساتھ اٹھاتے ہیں جن کی پیمائش 45cm، 40cm اور 42cm ہیں۔ وہ کم سے کم دوری معلوم کیجیے۔ جسے وہ تینوں پورے قدموں میں ناپ سکتیں۔ (NCERT Exemplar)
- 32- ایک سیل کے دوران رنگین پنسیلین 24 کے اور کریؤن (Crayons) 32 کے پیکٹ میں دستیاب ہیں۔ اگر آپ مساوی تعداد میں پنسیلین اور کریؤن خریدنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں کے لئے پیکٹ خریدیں گے۔ (CBSE-2017)
- 33- وہ بڑے سے بڑا عدد معلوم کیجیے۔ جس سے 31 اور 99 تقسیم کرنے پر باقی بالترتیب 5 اور 8 بچے۔
- 34- 65 اور 117 کے HCF کو 65m-117m کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔ m کی قیمت معلوم کیجیے۔ 65 اور 117 کا LCM مفردا جزائے ضربی کے طریقے سے معلوم کیجیے۔
- 35- 26، 65 اور 117 کا LCM اور HCF مفردا جزائے ضربی کے طریقے سے معلوم کیجیے۔
- 36- 180، 252 اور 324 کا HCF معلوم کیجیے۔ (CBSE-2016)
- 37- 6 ہندسوں کا بڑے سے بڑا عدد معلوم کیجیے جو 18، 24 اور 36 سے مکمل تقسیم ہو جائے۔
- 38- تین گھنٹیاں بالترتیب 9، 12، 15 منٹ کے وقفہ پر تجھتی ہیں۔ اگر وہ ایک ساتھ ایک وقت پر تجھتی ہیں تو دوبارہ ایک ساتھ کب بجیں گی؟
- 39- ایک کمرہ کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی بالترتیب 4m، 50cm، 6m، 75cm، 8m اور 25cm ہیں۔ اس سب سے بڑی چھوٹی کی لمبائی معلوم کیجیے جس کی مدد سے کمرہ کے ابعاد کی بالکل صحیح پیمائش کی جاسکے۔
- 40- 404 اور 96 کا LCM اور HCF معلوم کیجیے اور ثابت کیجیے کہ دونوں اعداد کا حاصل ضرب = $LCM \times HCF$ (CBSE-2018)

طویل جواب والے سوالات

- 41- 56، 96 اور 324 کا HCF معلوم کیجیے۔
- 42- اگر 42m، 49m اور 63m لمبے لکڑی کے تین لکڑوں کو مساوی لمبائی کے تختوں کی شکل میں تقسیم کیا جائے تو تختوں کی کم سے کم ممکنہ تعداد کیا ہوگی؟
- 43- امت، سینما اور سمیت اولڈ ایچ ہوم میں رہنے والے افراد کے لیے کارڈ بانا شروع کرتے ہیں۔ ایک کارڈ کو مکمل کرنے میں وہ بالترتیب 10، 16 اور 20 منٹ لیتے ہیں۔ اگر وہ ایک ساتھ شروع کرتے ہیں تو کتنے وقت کے بعد وہ نیا کارڈ ایک ساتھ بنانا شروع کریں گے؟

- آکیرتی نے اپنی یوم پیدائش (Birthday) پر یتیم خانہ میں دودھ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دودھ پہنچانے والا دو ٹینکروں میں 398 لیٹر اور 436 لیٹر دودھ لے کر آیا۔ ایک ڈرم کی مدد سے دونوں ٹینکروں کے دودھ کو تیسرے ٹینکر میں ڈالا گیا جس کے بعد پہلے اور دوسرا ٹینکر میں بالترتیب 7 لیٹر اور 11 لیٹر دودھ باقی نہ گیا۔ ڈرم کی زیادہ سے زیادہ گنجائش معلوم کیجیے۔
- 44- وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد معلوم کیجیے جس میں اگر 17 بڑھا دیا جائے تو وہ 520 اور 468 سے مکمل تقسیم ہو جائے۔
- 45- ایک گلی میں دو کاندار 396 گلاب جامن اور 342 رس گلے بناتا ہے۔ وہ انہیں اکٹھے پیک کرتا ہے۔ ہر ڈبے میں یا تو گلاب جامن ہے یا رس گلے ہیں لیکن ہر ڈبے میں ان کی تعداد برابر ہے۔ کم سے کم ڈبے بنانے کے لیے اسے ہر ڈبے میں کتنے گلاب جامن یا رس گلے رکھنے ہوں گے۔ (CBSE-2016)
- 46- 110,000 کے قریب ترین لیکن 1 لاکھ سے بڑا ایسا عدد معلوم کیجیے جو 8,15 اور 21 سے مکمل طور پر تقسیم ہو جائے۔
- 47- کسی سمینار میں ہندی، انگریزی اور براہی کے بالترتیب 108، 84، 60 شرکاء ہیں۔ کم سے کم کتنے کمروں کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہر کمرے میں ایک ہی مضمون کے برابر برابر شرکاء موجود ہوں۔
- 48- حساب کا بنیادی مسئلہ لکھیے۔ کیا دواعداد کا LCM اور HCF بالترتیب 24 اور 540 ہو سکتا ہے۔ اپنے جواب کی وضاحت کیجیے۔
- 49- وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد معلوم کیجیے جس میں 20 بڑھانے سے وہ عدد 90 اور 144 سے مکمل تقسیم ہو جائیگا۔
- 50- اگر 1032 اور 408 کے HCF کو $5 \times 408 - 1032p$ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں تو p کی قیمت معلوم کیجیے۔
- 51- دواعداد کا LCM ان اعداد کے HCF کا 14 گناہے۔ اور HCF کا حاصل جمع 600 ہے۔ اگر ان اعداد میں سے ایک عدد 28 ہو تو دوسرا عدد معلوم کیجیے۔

جوابات

	5	.1
$3^3 \times 5^2$.2	
$x^3 \times y^5$.3	
$y = 70, x = 35$.4	
$a^{2n} - b^{2n}$ کی شکل سے تقسیم ہو جاتا ہے اس لیے $25^{2n} - 9^{2n}$ (c) دوں سے تقسیم ہو گا۔	.5	
550 (b)	.6	
(8) d	.7	
500 (b)	.8	
14 (c)	.9	
1:2 (a)	.10	
c	.11	
c	.12	
7	.13	
$2t-1$ اور $2t+1$.14	
2520	.15	
75	.16	
60:1	.17	
12 کے اجزاء ضربی 2, 2, 3 ہے جس میں 5 شامل نہیں ہے۔ اس لیے 12 کبھی بھی 0 یا 5 پر ختم نہیں ہو گا۔	.18	

سے ضرب کرنے پر $\sqrt{5} + \sqrt{2}$.19

$3 =$ عدد

$36 = \text{HCF } \sqrt{144}$ اور 180 .21

$13m - 3 = 36 \Rightarrow 13m = 39 \Rightarrow m = 3$

دیا ہے n ایک ثابت طاق صحیح عدد ہے۔ .22

\Leftarrow اور $2n+2$ مثبت جفت عدد ہوں گے۔

$$(-1)^n = -1, (-1)^{2n} = +1, (-1)^{2n+1} = -1, (-1)^{4n+2} = +1$$

$$\therefore (-1)^n + (-1)^{2n} + (-1)^{2n+1} + (-1)^{4n+2} = -1 + 1 - 1 + 1 = 0$$

$170 = 2 \times 5 \times 17 = \text{HCF } \sqrt{850}$ اور یہ .23

$2658 = 2 \times 3 \times 443$.24

$q = 5$ اور $p = 3$.25

$\sqrt{5}$ اور $\sqrt{3}$ کو غیر ناطق ثابت کریں۔ دو غیر ناطق اعداد کا حاصل جمع غیر ناطق عدد ہوتا ہے۔ .26

5 ایک ناطق عدد ہے $\frac{3}{7}$ ایک غیر ناطق عدد ہے۔ ایک ناطق اور ایک غیر ناطق عدد کا فرق غیر ناطق ہوتا ہے۔ .27

$\text{LCM} = 112, \text{ HCF} = 56$.29

15 کے دو سے زیادہ جزو ضربی ہیں اس لیے یہ ایک مرکب عدد ہے۔ .30

$2520 = \text{LCM} (40, 42, 45)$.31

کم سے کم طے کیا جانا والا فاصلہ = 2520 cm

$96 = \text{LCM } \sqrt{32}$ اور 24 .32

$$96 \text{ پنیلیں یا } 4 = \frac{96}{24} \text{ پیکٹ پنیلوں کے}$$

$$96 \text{ کریون یا } 3 = \frac{96}{32} \text{ پیکٹ کریون کے}$$

دیئے ہوئے اعداد = 31 اور 99 .33

$$99 - 8 = 91, \quad 31 - 5 = 26$$

$$26 = 2 \times 13$$

$$91 = 7 \times 13$$

$$13 = \text{HCF} \text{ کے } 91 \text{ اور } 26$$

وہ بڑے سے بڑا عدد 13 ہے جس سے 31 اور 99 کو تقسیم کرنے پر بالترتیب 5 اور 8 باقی بچتا ہے۔

$$13 = \text{HCF}(117, 65) \quad .34$$

$$65m - 117 = 13 \quad \text{دیا ہے}$$

$$\Rightarrow 65m = 130$$

$$\Rightarrow m = 2$$

$$585 = 13 \times 3^2 \times 5 = \text{LCM}(117, 65)$$

$$\text{HCF} = 13 \quad .35$$

$$\text{LCM} = 1170$$

$$\text{HCF}(324, 252, 180) = 36 \quad .36$$

$$\text{LCM}(18, 24, 36) = 72 \quad .77$$

6. ہندسوں کا سب سے بڑا عدد = 999999

$$\begin{array}{r} 999999 \\ \overline{)999999\left(13888\right)} \\ 72 \\ \underline{72} \\ 279 \\ \underline{216} \\ 639 \\ \underline{576} \\ 639 \\ \underline{576} \\ 639 \\ \underline{576} \\ 63 \end{array}$$

$$\text{حاصل عدد} = 999999 - 63$$

$$999936 =$$

$$180 = \text{LCM}(19, 12, 15) \quad .38$$

$$\text{HCF} - 8 \text{m } 25 \text{ cm}, 6 \text{m } 75 \text{ cm}, 4 \text{m } 50 \text{ cm} = 75 \text{ cm} \quad .39$$

$$\text{HCF}(404, 96) = 4 \quad .40$$

$$\text{LCM}(404, 96) = 9696$$

$$\text{HCL} \times \text{LCM} = 4 \times 9696 = 38784$$

$$\text{دلوں اعداد کا حاصل ضرب} \\ 38784 = 404 \times 96 =$$

$$\text{HCF}(56, 96, 324) = 4.41$$

$$\text{دلوں اعداد کا حاصل ضرب} \\ \text{HCF} \times \text{LCM} =$$

$$\text{HCF of } 42\text{m}, 49\text{m}, \text{and } 63\text{m} = 7\text{m} \quad .42$$

$$\text{Number of Planks} = \frac{42}{7} + \frac{49}{7} + \frac{63}{7} \\ = 6+7+9 = 22$$

$$17 \quad .44$$

$$\text{LCM}(468, 520) = 4680 \quad .45$$

$$4663 = 4680 - 17 =$$

$$41 = \frac{396 + 342}{18} = 18 \quad \text{ڈبوں کی تعداد} \\ 18 = \text{HCF}(396, 342) \quad .46$$

$$109200 \quad .47$$

$$\text{ہر ایک کمرے میں شرکاء کی تعداد} \quad .48$$

$$12 = 2^2 \times 3 = \text{HCF}(60, 84, 108) =$$

$$21 = \frac{252}{12} = \frac{60 + 84 + 108}{12} = \text{حاصل کردہ کمروں کی تعداد}$$

$$\text{LCM} = 540, \text{HCF} = 24 \quad .49$$

$$\frac{\text{LCM}}{\text{HCF}} = \frac{540}{24} = 22.5$$

جو ایک صحیح عدد نہیں ہے۔

اس لیے دو اعداد کا HCF اور LCM 24 اور 540 نہیں ہو سکتا۔

$$\text{حاصل کردہ عدد} = \text{LCM}(90, 140) - 20 = .50$$

$$720 - 20 =$$

$$700 =$$

$$p = 2 \quad .51$$

$$\text{LCM} = 560, \text{HCF} = 40 \quad .52$$

$$\text{دوسرے اعداد} = 80$$

مشقی سوالات

کل نمبر: 20

وقت: 1 گھنٹہ

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | جانچ کیجیے کہ $7 \times 21 \times 23 + 7 \times 19 \times 17$ ایک مرکب عدد ہے۔ | -1 |
| 1 | سب سے چھوٹے مفرد عدد اور سب سے چھوٹے غیر مفرد عدد کا LCM کیا ہوگا؟ | -2 |
| 1 | $\dots = \text{HCF} \cancel{x^8 y^3} \cancel{x^4 y^8}$ | -3 |
| 1 | $\dots = \text{LCM} \cancel{122} \cancel{14}$ کا | -4 |
| 2 | دکھائیے کہ 9^n کبھی بھی صفر پر ختم نہیں ہو سکتا۔ | -5 |
| 2 | فطری اعداد کے ایسے جوڑے معلوم کیجیے جن کا LCM 78 اور HCF 13 ہے۔ | -6 |
| 2 | فیکٹری کا استعمال کر کے 7650 کے مفرد اجزاء کے ضربی معلوم کیجیے۔ | -7 |
| 3 | ثابت کیجیے کہ $2\sqrt{5} - 3$ ایک غیر ناطق عدد ہے۔ | -8 |
| 3 | 36، 36 اور 120 کا HCF معلوم کیجیے۔ | -9 |
| 4 | ایک کھیل کا سامان یعنی واپس نے چلنے کے فائدے اور ان سے آگاہی پھیلانے کے لیے "Run to Remember" نام کی مہم کا انعقاد کیا۔ اس مہم میں سوہم اور بانی نے حصہ لیا۔ ایک کھیل کے میدان کے چاروں طرف دائرہ نما راستہ تھا۔ سوہم کو ایک چکر لگانے میں 12 منٹ لگے جب کہ بانی کو 18 منٹ لگے۔ یہ مانتے ہوئے کہ ان دونوں نے ایک ہی جگہ سے ایک ہی وقت پر ایک ہی سمت میں چلانا شروع کیا۔ کتنے وقت کے بعد وہ دونوں اسی جگہ ملیں گے جہاں سے چلے تھے۔ | -10 |

باب 2

کشیر کنیاں (Polynomials)

بہت مختصر جواب والے سوالات

اگر کشیر کنی (P(x)) کا ایک صفر دوسرے صفر کا ضربی معکوس ہو تو K کی قدر

- 6 (d) $\frac{1}{6}$ (c) 5 (b) 0 (a)

اگر کشیر کنی (P(x+1)) کے دو صفر α اور β اس طرح ہوں کہ $x^2 - P(x+1) - c = P(x)$ ہو تو $c = \alpha(\alpha+1)(\beta+1)$

ایک دو درجی کشیر کنی $x^2 + 3x + k$ کا ایک صفر 2 ہو تو k کی قیمت

- 5 (d) 5 (c) -10 (b) 10 (a)

ایک دو درجی کشیر کنی $x^2 + (a+1)x + b$ کے صفر 2 اور -3 ہوں تو

- $b = -1, a = -5$ (b) $b = -1, a = -7$ (a)

- $b = -6, a = 0$ (d) $b = -6, a = 2$ (c)

کشیر کنی $4x^2 - 5x + 4$ میں کیا جوڑا جائے جس سے حاصل ہونے والے کشیر کنی کا ایک صفر 3 ہو جائے۔

- 5 (d) 4 (c) 2 (b) 1 (a)

کشیر کنی $f(x) = x^2 + x + 1$ کے صفر α اور β ہوں تو $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = ?$

کشیر کنیوں کی تعداد جن کے صفر 3 اور 5 ہیں۔

- لامحدود (b) صرف ایک (a)

- زیادہ سے زیادہ 2 (d) صرف 2 (c)


-8 اگر α اور β کیش رکنی $x^2 - 1 - (\alpha + \beta)x$ کے صفر ہیں تو $(\alpha + \beta)$ کی قدر ہے:

- 0 (d) -1 (c) 1 (b) 2 (a)

.9 درج ذیل میں سے وہ کون اسی دو درجی کیش رکنی ہے جس کے صفر $\frac{2}{3}$ اور $\frac{-2}{3}$ ہیں۔

- $2^2 + \frac{4}{9}$ (c) $\frac{4}{9}(ax^2 + 4)$ (b) $4x^2 - 9$ (a)

.10 دو درجی کیش رکنی $a \neq 0, ax^2 + bx + c$ کا گراف ہو تو a گا۔



-12 ایک دو درجی کیش رکنی معلوم کیجیے جس کے صفر $(5 - 2\sqrt{3})$ اور $(5 + 2\sqrt{3})$ ہیں۔

-13 اگر $9x^2 - 40kx - 8k^2 = 0$ کا ایک صفر دوسرے صفر کا منفی ہو تو k کی قدر معلوم کیجیے۔

-14 کیش رکنی $4x^2 - 5x + 3$ میں کیا عدد جوڑا جائے جس سے کہ حاصل ہونے والی کیش رکنی کا ایک صفر 3 ہو جائے۔

-15 کسی دو درجی کیش رکنی کے (i) زیادہ سے زیادہ اور (ii) کم سے کم کتنے صفر ہو سکتے ہیں؟

-16 کیش رکنی $x^2 + 1$ کے کتنے حقیقی صفر ہو سکتے ہیں؟

-17 اگر α اور β کیش رکنی $3x^2 - 7x - 3$ کے صفر ہیں تو دو درجی کیش رکنی بنائیے جس کے صفر 2α اور 2β ہوں۔

(CBSE)

-18 اگر α اور β کیش رکنی $4x^2 - 17x + k - 4$ کے صفر ہوں تو k کی قدر معلوم کیجیے۔

- 19 اس کیش رکنی کے کتنے صفر ہوں گے جس کا گراف متوازی ہے:

y - محور کے (i)

x - محور کے (ii)

- 20 اس کیش رکنی کے کتنے صفر ہوں گے جس کا گراف محوروں کو مندرجہ ذیل نقطوں پر قطع کرتا ہے۔

(3,0), (0,2) اور (-3,0) (i)

(0,-4) اور (0,0), (0,4) (ii)

مختصر جواب والے سوالات (Type-I)

- 21 k کی کس قدر کے لیے $x^2 - 4x + k = 0$ میں محور کو چھوڑے گا

- 22 اگر کیش رکنی $6 - ax^2 - 6x$ کے صفروں کا حاصل ضرب 4 ہے تو a کی قدر معلوم کیجیے۔ صفروں کا حاصل جمع بھی معلوم کیجیے۔

- 23 کیش رکنی $6 - x^2 - kx$ کے صفروں کا تابع 2:3 ہے۔ k کی قدر معلوم کیجیے۔

- 24 اگر کیش رکنی $k - 6kx + (k^2 + k)x^2 + 68x + 1$ کا ایک صفر دوسرے صفر کا ضریبی معکوس ہے تو k کی قدر معلوم کیجیے۔

- 25 کیش رکنی $m - x^2 - 5x + \alpha$ اور β اس طرح ہیں کہ $= 1 = (\alpha - \beta)$ تو m کی قدر معلوم کیجیے۔

- 26 اگر کیش رکنی $k - x^2 - 8x + 40$ کے صفروں کے مربعوں کا مجموعہ 40 ہے تو k کی قدر معلوم کیجیے۔

- 27 اگر α اور β کیش رکنی $t^2 - 4t - 1$ کے صفر ہیں تو ایک دو درجی کیش رکنی بنائیے جس کے صفر $\frac{1}{\alpha}$ اور $\frac{1}{\beta}$ ہوں۔

- 28 اگر α اور β کیش رکنی $5 - 2x^2 + 7x + 5$ کے صفر ہیں تو: $(\alpha - \beta)$ معلوم کیجیے۔

- 29 اگر کیش رکنی $4 - 3x^2 + 11x - m$ کے صفر میں m اور n ہوں تو $\frac{m}{n} + \frac{n}{m}$ کی قدر معلوم کیجیے۔ (CBSE-2012)

- 30 ایک دو درجی کیش رکنی معلوم کیجیے جس کے صفر $\frac{3-\sqrt{5}}{5}$ اور $\frac{3+\sqrt{5}}{5}$ ہوں۔ (CBSE-2013)

مختصر جواب والے سوالات (Type-II)

- 31 کشیر کنی $x^2 - 3x - m$ کے صفر معلوم کیجیے۔
- 32 کشیر کنی $\sqrt{3} - 2\sqrt{3}x^2 + 5x$ کے صفر معلوم کیجیے نیز صفروں اور ضریبوں کے تعلق کی تصدیق کیجیے۔
- 33 ایک دو درجی کشیر کنی بنائیے جس کا ایک صفر 8 اور صفروں کا حاصل ضرب 56 ہے۔
- 34 کشیر کنی $15 - x^2$ کا ایک صفر (-5) ہے۔ اگر $p(x^2 + x) + k$ کے دونوں صفر مساوی ہیں تو k کی قدر معلوم کیجیے۔
- 35 k کی وہ قدر معلوم کیجیے جس کے لیے کشیر کنی $5 - kx - x^2 + 2kx + x$ کے صفروں کا حاصل جمع ان کے حاصل ضرب کا نصف ہے۔
- 36 اگر کشیر درجی $a \neq 0, ax^2 + bx - c$ کے صفر ایک دوسرے کے جمی مقلوب ہوں تو b/a کی قدر معلوم کیجیے۔
- 37 اگر α اور β کشیر کنی $2 - x^2$ کے صفر ہیں تو ایک کشیر کنی معلوم کیجیے جس کے صفر $(2\alpha + 1)$ اور $(2\beta + 1)$ ہیں۔

طويل جواب والے سوالات

- 38 اگر α اور β دو درجی کشیر کنی $k - 2x^2 + 5x + \alpha\beta = 24$ کی قدر معلوم کیجیے تاکہ
- 39 اگر دو درجی کشیر کنی $p - 3x^2 - 2x$ کا ایک صفر 3 ہے تو دوسرا صفر معلوم کیجیے۔
- 40 ایک دو درجی کشیر کنی معلوم کیجیے جس کے صفر 2:3 کی نسبت میں ہیں اور ان کا حاصل جمع 15 ہے۔
- 41 اگر $(a+x)(x+a)$ دو درجی کشیر کنیوں $x^2 + mx + x$ اور $x^2 + px + q$ کا جزو ضریبی ہے تو ثابت کیجیے کہ
- $$a = \frac{n-q}{m-p}$$
- 42 اگر دو درجی کشیر کنی $9 - 9x^2 - 8x + 8x^2 - 4x$ کا ایک صفر دوسرے صفر کا منقی ہے تو $2 - kx + 3kx^2 + x^2$ کے صفر معلوم کیجیے۔
- 43 اگر α اور β دو درجی کشیر کنی $3 - 5x - x^2$ کے صفر ہیں تو ایک ایسی دو درجی کشیر کنی بنائیے جس کے صفر $(2\alpha + 3\beta)$ اور $(3\alpha + 2\beta)$ ہیں۔

-44۔ اگر کیش رکنی $5(k+1)x^2 - 5x + 9$ کا صفر دوسرے صفر کا ضربی ملکوس ہے تو $kx^2 - 3kx + 9$ کا صفر معلوم کیجئے۔

-45۔ اگر دو درجی کیش رکنی $24(k-4)x^2 + (k+1)x + 7$ کے صفروں کا حاصل ضرب 7 ہے تو کیش رکنی $5(kx^2 + 11x + 24)$ کے صفروں کا صفر معلوم کیجئے۔

-46۔ اگر α اور β کیش رکنی $x^2 + 4x + 3$ کے صفر ہوں تو کیش رکنی بنائیے جس کے صفر 1 + $\frac{\alpha}{\beta}$ اور 1 + $\frac{\beta}{\alpha}$ ہوں (CBSE)۔

-47۔ ایک درجی کیش رکنی کی تشکیل کیجئے جس کا ایک صفر $\sqrt{5} + 2$ ہو اور صفروں کا حاصل جمع 4 ہو۔

-48۔ ایک کیش رکنی بنائیے جس کے صفر کیش رکنی $P(x) = ax^2 + bx + c$ کے صفروں کے ملکوس ہوں۔

-49۔ اگر $(x+2)$ کیش رکنی $x^2 + px + 2q = 0$ کا جزو ضریبی ہو اور $p+q=4$ ہو تو p اور q کی قدر معلوم کیجئے۔

-50۔ اگر کیش رکنی $Sx^2 + (p+q+r)x + pqr$ کے صفروں کا حاصل جمع صفر ہو تو $p^3 + q^3 + r^3$ کی قدر معلوم کیجئے۔

-51۔ اگر کیش رکنی $x^2 + px + q$ کے صفروں کی قدر کیش رکنی $3 - 5x - 2x^2$ کے صفروں کے دو گنی ہوں تو p اور q کی قدر معلوم کیجئے۔

جوابات اور اشارے

(b) -1

-1 -2

(b) -3

(d) -4

(b) -5

(b) -6

-7

(d) -8

(d) -9

مختصر (c) -10

a = 1 -11

$x^2 - 10x + 13$ -12

K = 0, 5 -13

(-2) -14

0 (ii) 2 (i) -15

0 -16

k[3x² - 7x - 6] -17

k = 8 -18

0 (ii) 1 (i) -19

1 (ii) 2 (i) -20

4 -21

-4 = a صفر کا حامل چیز -22

-5, 5 -23

$$5 \quad -24$$

$$6 \quad -25$$

$$12 \quad -26$$

$$4t^2+t-1 \quad -27$$

$$\alpha - \beta = \pm \frac{3}{2} \quad -28$$

$$\frac{m}{n} + \frac{n}{m} = \frac{m^2+n^2}{mn} = \frac{(m+n)^2-2mn}{mn} \quad -29$$

$$= \frac{\left(\frac{-11}{3}\right)^2 - 2\left(\frac{-4}{3}\right)}{\left(\frac{-4}{3}\right)} = \frac{-145}{12}$$

$$\alpha\beta = \frac{4}{25}, \alpha + \beta = \frac{6}{5} \quad -30$$

$$(25x^2-30x+4)$$

$$m+3, -m \quad -31$$

$$\frac{-2}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}}{4} \quad -32$$

$$q = 3, P = 2 \quad -33$$

$$\frac{7}{4} \quad -34$$

$$1 \quad -35$$

$$b=0 \quad -36$$

$$x^2-4x-5 \quad -37$$

$$(\alpha+\beta) = -5/2 \text{ and } \alpha\beta = k/2 \quad -38$$

Substituting the above values in $(\alpha+\beta)^2 - \alpha\beta = 24$ solve to get $k = -71/2$

$$3 \text{ is a zero, so } 2(3)^2 - 3 \times 3 + p = 0 \quad -39$$

$p = 9$. Now $\alpha\beta = c/a$ Solve to get the other zero $-3/2$

$$\alpha:\beta = 2:3. \text{ So } \alpha = \beta 2/3 \quad -40$$

Using $(\alpha+\beta) = 15$, Solve to get α and β as 9 and 6
required polynomials is $x^2 - 15x + 54$

$$(x+a) \text{ is a factor of } x^2 + px + q \quad -41$$

$$(-a)^2 - ap + q = 0$$

$$a^2 = ap - q \dots\dots\dots(i)$$

Similarly from $x^2 + 3x + n$

$$(a)^2 = am - n \dots\dots\dots(ii)$$

Comparing eq (i) and (ii)

$$a = (n - q)/(m - p)$$

$$f(x) = 4x^2 + (8 - 8k)x - 9 \quad -42$$

$$(\alpha + \beta) = -(8 - 8k)/4$$

$$k = 1$$

Substitute $k = 1$ and solve for $x = -2$ and -1

$$\text{For given polynomial, } (\alpha + \beta) = 5, \alpha \beta = -3 \quad -43$$

$$\begin{aligned} \text{For required polynomial, sum of zeroes} &= (2\alpha + 3\beta) + (3\alpha + 2\beta) \\ &= 5(\alpha + \beta) \\ &= 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Product of zeroes} &= (2\alpha + 3\beta)(3\alpha + 2\beta) = 6\alpha^2 + 6\beta^2 + 13\alpha\beta \\ &= 6(\alpha^2 + \beta^2) + 13\alpha\beta = 6[(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta] + 13\alpha\beta \\ &= 147 \text{ required polynomial is } x^2 - 25x + 147 \end{aligned}$$

$$f(x) = (k+1)x^2 - 5x + 5 \quad -44$$

$$(\alpha\beta) = 1$$

$$5/(k+1) = 1$$

$$k = 4$$

Substituting $k = 4$ in $kx^2 - 3kx + 9$ solve to get zeroes

$$x = 3/2 \text{ and } 3/2$$

$$f(x) = kx^2 + 11x + 42 \quad -45$$

$$(\alpha\beta) = 7 \quad k = 6$$

Substituting $k = 6$ in $(k-4)x^2 + (k+1)x + 5$ solve to get zeroes $x = -1$ and $x = -5/2$

$$\frac{1}{3}[3x^2 - 16x + 16] \downarrow x^2 - \frac{16}{3}x + \frac{16}{3} \quad -46$$

$$\alpha + \beta = 4 \quad -47$$

$$(2 + \sqrt{5}) + \beta = 4$$

$$\beta = 2 - \sqrt{5}$$

$$\alpha\beta = -1$$

\therefore Polynomial

$$= k[x^2 - 4x - 1]$$

$$k \left[x^2 + \frac{b}{c}x + \frac{a}{c} \right] \quad -48$$

$$p = 3, q = 1 \quad -49$$

$$P^3 + q^3 + r^3 = 3pqr \quad -50$$

$$= 3pqr$$

$$p = -5 \quad -51$$

$$q = -6$$

مشقی سوالات

کشیر کنیاں

وقت: 1 گھنٹہ


کل نمبر: 20

- 1 اگر α اور β کسی دو درجی کشیر کنی $P(x)$ کے صفر ہوں تو $P(x)$ کے اجزاء ضریب معلوم کیجیے۔ -1
- 1 اگر α اور β کشیر کنی $x^2 - x - 1$ کے صفر ہوں تو $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ کی قدر معلوم کیجیے۔ -2
- اگر درجی کشیر کنی $(k-1)x^2 + kx + 1$ کا ایک صفر $-3 - 4$ کی قدر
- 1 ایک دو درجی کشیر کنی جس کے صفر -3 اور 4 ہے
- $x^2 + x + 12$ (b) $x^2 - x - 12$ (a)
- 1 $2x^2 + 2x - 24$ (d) $\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} - 6$ (c)
- 2 اگر α اور β کشیر کنی k کی قدر معلوم کیجیے
- $\alpha + \beta = \frac{1}{2} \alpha \beta$ جبکہ
- 2 ایک دو درجی کشیر کنی معلوم کیجیے جس کا ایک صفر $(3 + \sqrt{2})$ اور صفر وں کا حاصل جمع 6 ہے۔ -6
- 2 اگر کشیر کنی $x^2 + 4x + 2a$ کے صفر α اور $\frac{2}{\alpha}$ ہوں تو a کی قیمت معلوم کیجیے۔ -7
- اگر α اور β کشیر کنی $4s^2 - 6s + 4$ کی قدر معلوم کیجیے۔ -8
- 3 اگر p اور r کو جھوٹ کشیر کنی $px^2 + qx + r$ کے دو صفر ہوں اور ایک صفر دوسرے کے معلوم ہوں تو کیجیے۔ -9
- 3 اگر p اور r کے درمیان تعلق معلوم کیجیے۔
- 4 کشیر کنی $\sqrt{3}x^2 + 10x + 7\sqrt{3}$ کے صفر معلوم کیجیے۔ -10
- 4 صفر اور ان کے ضریبوں کے درمیان تعلق کی تصدیق کیجیے۔

باب 3

دو متغیر والی خطی مساواتوں کے جوڑے

(Pair of Linear Equations in two variable)



بہت مختصر ترین جواب والے سوالات

-1 اگر مساواتوں $2x+5y = 2$ اور $3x+2ky = 1$ سے بننے والے خطوط مساوی ہوں تو K کی قیمت ہوگی۔

-2 اگر $x=a$ اور $y=b$ مساواتی جوڑوں $x+y=4$ اور $x-y=2$ کا حل ہیں تو a اور b کی قدر بالترتیب — اور ہوں گی

-3 ایک خطی مساواتوں کا جوڑا جگا کیتا حل $x=2$ اور $y=-3$ ہے۔

$$2x-3y = -5 \quad \text{اور} \quad x+y = 1 \quad (\text{a})$$

$$4x-10y = -22 \quad \text{اور} \quad 2x+5y = -11 \quad (\text{b})$$

$$4x+10y = -22 \quad \text{اور} \quad 2x+5y = -11 \quad (\text{c})$$

$$5x-y-13 = 0 \quad \text{اور} \quad x-4y-14 = 0 \quad (\text{d})$$

-4 خطوط سے مل کر بننے والے مثلث کا رقبہ ہے۔

-5 کی وہ قیمت معلوم کیجیے جس کے لیے مساواتوں $3x+5y=0$ اور $kx+10y=0$ کا غیر صفری حل ہوگا۔

-6 اگر دو متغیر والی خطی مساواتوں کے جوڑے مطابق (Consistent) ہوں تو ان مساواتوں سے بننے والے خطوط ہوں گے۔

(a) قاطع (b) متوالی (c) ہمیشہ تابع (d) قاطع یا تابع

-7 مساوات $2x+3y=4$ میں، x کو y کی شکل میں کیسے لکھ سکتے ہیں۔

-8 مساوات $ax+by=c$ اور y -محور کا ایک مشترک حل ہوگا۔

$$\left(0, -\frac{c}{b}\right) \quad (\text{d}) \quad \left(\frac{c}{b}, 0\right) \quad (\text{c}) \quad \left(0, -\frac{b}{c}\right) \quad (\text{b}) \quad \left(0, \frac{c}{b}\right) \quad (\text{a})$$

-9 اگر مساواتوں $lx+my=n$ اور $ax+by=c$ کا کیتا حل ہو تو ضریبوں کے درمیان تعلق ہوگا۔

$$ab \neq lm \quad (\text{d}) \quad ab = lm \quad (\text{c}) \quad am = lb \quad (\text{b}) \quad am \neq lb \quad (\text{a})$$

-10 اور $C < B < A$ اور $C = 2(A + B)$ ، $C = 3B$ میں ΔABC با ترتیب ہوں گے۔

$$20^\circ, 40^\circ, 120^\circ \quad (\text{b}) \quad 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ \quad (\text{a})$$

$$110^\circ, 40^\circ, 50^\circ \quad (\text{d}) \quad 45^\circ, 45^\circ, 90^\circ \quad (\text{c})$$

اگر $x = 3m - 1$ اور $y = 4$ مساوات 6 کے حل ہوں تو m کی قدر معلوم کیجیے۔ - 11

مساوات 6 $3x - 2y = 6$ کو ظاہر کرنے والا خط y -محور کو کس نقطہ پر قطع کرتا ہے؟ - 12

p کی کس قدر کے لیے مساواتوں $8 = x + py$ اور $6 = 2x + y$ کا کوئی حل نہیں ہے؟ - 13

ایک موٹر سائیکل سوار خط $2 = y - x$ کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسرا موٹر سائیکل سوار خط $4 = y - x$ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب دونوں کے چلنے کی سمت کیا ہے؟ - 14

k کی کس قدر کے لیے خطی مساواتوں $5 = x - ky$ اور $2 = 3x + 2y$ کا یکتا حل ہوگا۔ - 15

مساواتوں $x = y$ اور $x = -y$ کا حل کیجیے۔ - 16

ایک خطی مساوات لکھیے جو $4 = 2x + 5y$ کے ساتھ تابع اور ہم آہنگ ہو۔ - 17

جانچ کیجیے کہ خطی مساواتوں $0 = 2x + 4y - 12$ اور $0 = x + 2y - 4$ کا جوڑ ا تقاطع خطوط ہوگا یا متوازی خطوط؟ - 18

P کی کس قدر کے لیے خطی مساواتوں $3 = x + y$ اور $9 = 3x + py$ کا جوڑ اغیر مطابق ہوگا۔ - 19

اگر ہم خطوط $2 = x$ اور $3 = y$ کو بناتے ہیں تو ہمیں کس قسم کے خطوط حاصل ہوں گے؟ - 20

مختصر جواب والے سوالات (Type-I)

خطی مساواتیں بنائیے۔ - 21

کسی کسر کے شمارکنندہ اور اس کے نسب نما کا جوڑ اس کے نسب نما کے دو گنے سے 3 کم ہے۔ اگر شمارکنندہ اور نسب نما دونوں میں سے ایک گھٹایا جائے تو شمارکنندہ نسب نما کا آدھا ہو جاتا ہے۔


p کی کس قیمت کے لیے خطی مساواتوں کے جوڑے - 22

$$(p + 2)x - (2p + 1)y = 3(2p - 1) \quad \text{اور} \quad 2x - 3y = 7$$

کا صرف ایک حل ہوگا۔

اگر ABCDE ایک پانچ ضلعی ہے جس میں $BC \perp CD$ اور $CD \parallel BE \parallel ED$ نہیں۔ اگر $AB = 3\text{ cm}$ اس کا احاطہ -23

ہے تو x اور y کی قدر معلوم کیجیے۔



x اور y کے لیے حل کیجیے۔ -24

$$x - \frac{y}{2} = 3, \quad \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = \frac{2}{3}$$

x اور y کے لیے حل کیجیے۔ -25

$$3x + 2y = 11, \quad 2x + 3y = 4$$

اگر $p = 8x + 5y$ ہو تو p کی قدر معلوم کیجیے۔

متداول طریقے سے خطی مساواتوں کے جوڑے کو حل کیجیے۔ -26

$$x - 3y - 6 = 0 \quad x - 7y + 42 = 0$$

رام خصصات (1,4) اور (0,6) کو ملانے والے خط کے ساتھ چل رہا ہے۔ ریم خصصات (3,4) اور (0,1) کو ملانے والے خط کے ساتھ چل رہا ہے۔ گراف پر ظاہر کیجیے اور وہ نقطہ معلوم کیجیے جہاں دونوں خطوط قطع کرتے ہیں۔ -27

دی ہوئی خطی مساوات $0 = 2x + 3y - 12$ کے لیے دو متغیر والی ایک اور خطی مساوات لکھیے کہ اس جوڑے کا گراف -18

(iii) تابع خطوط ہوں (ii) متوازی خطوط ہوں (i)

دو اعداد کا فرق 66 ہے۔ اگر ایک عدد دوسراے عدد کا 4 گناہو تو اعداد معلوم کیجیے۔ -29

کی کس قدر کے لیے مندرجہ ذیل خطی مساواتوں کے جوڑے غیر ہم آہنگ ہوں گے؟ -30

$$kx + 3y = k - 3$$

$$12x + ky = k$$

مختصر جواب والے سوالات (Type-II)

گراف کی مدد سے مساواتوں کے جوڑے کو حل کیجیے۔ - 31

$$3x - 2y = -4 \quad , \quad 5x - y = 5$$

یہ بھی معلوم کیجیے کہ دونوں خطوط y -محور کوں مختصات پر قطع کرتے ہیں؟

ترجیحی ضرب کے طریقے سے حل کیجیے۔ - 32

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = a + b$$

$$\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} = 2$$

اور b کی کس قیمت کے لیے مندرجہ ذیل خطی مساواتوں کے جوڑے لاحدہ و حل ہیں۔ - 33

$$2x + 3y = 7$$

$$a(x + y) - b(x - y) = 3a + b - 2$$

K کی کس قدر کے لیے خطی مساواتوں کے جوڑے کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ - 34

$$(3k+1)x + 3y - 2 = 0$$

$$(k^2+1)x + (k-2)y - 5 = 0$$

کا کوئی حل نہیں ہوگا۔

خطی مساواتوں کے جوڑے کو حل کیجیے۔ - 35

$$152x - 378y = -74$$

$$-378x + 152y = -604$$

رکنی نے کسی امتحان میں 40 نمبر حاصل کیے جب اسے صحیح جواب دینے پر 3 نمبر ملے اور غلط جواب دینے پر ایک نمبر کاٹا گیا۔ - 36

اگر امتحان میں صحیح جواب دینے پر 4 نمبر ملتے اور غلط جواب دینے پر 2 نمبر کاٹے گئے ہوتے تو رکنی کو 40 نمبر ملتے۔ اس

امتحان میں کل کتنے سوال تھے؟

ایک والد کی عمر اپنے دو بچوں کی عروں کے حاصل جمع کا 3 گناہے۔ 5 سال بعد والد صاحب کی عمر دونوں بچوں کی عروں کے حاصل جمع کا دو گناہو جائے گی۔ والد کی عمر معلوم کیجیے۔ - 37

ایک TV کو 5% نفع سے اور فرنچ کو 10% منافع پر بیچنے پر دکاندار کو 2000 روپے کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ اگر TV کو

10% منافع سے اور فرج کو 5% نقصان میں بینے پر اس کو 1500 روپے کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ TV اور فرنچ کی اصل قیمت معلوم کیجیے۔

سینتا کے پاس کچھ 50 اور 100 روپے کے نوٹ تھے جن کی کل قیمت 15500 روپے ہے۔ اگر نوٹوں کی کل تعداد 200 ہوتا ہے۔ معلوم کیجیے کہ سینتا کے پاس 50 اور 100 روپے کے کتنے کتنے نوٹ تھے؟ -39

طويل جواب والے سوالات

40۔ گراف کی مدد سے خطی مساواتوں کے جوڑے کو حل کیجیے۔

$$3x - 4y + 3 = 0 \quad , \quad 3x + 4y - 21 = 0$$

ان خطوط اور x-محور کے ذریعے بننے والے مثلث کے راسوں کے مختصات معلوم کیجیے۔ مثلث کا رقبہ بھی معلوم کیجیے۔

41۔ کسی ہائی وے پر دونوں طرف A اور B کے درمیان کا فاصلہ 150 کلومیٹر ہے۔ A اور B سے ایک ہی وقت پر 2 کاریں مختلف رفتار سے چلتی ہیں۔ اگر وہ دونوں ایک ہی سمت میں چلتی ہیں تو انہیں ملنے میں 15 گھنٹے لگتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی طرف چلنے پر ان دونوں کو ملنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے۔ دونوں کاروں کی رفتار معلوم کیجیے۔

42۔ دو افراد A اور B کی آمدنی کی نسبت 4:3 اور خرچ کی نسبت 7:5 ہے۔ اگر ان کی سالانہ بچت 15000 روپے ہو تو ان کی سالانہ آمدنی معلوم کیجیے۔

43۔ وجہ کے پاس کچھ کیلے تھے اس نے ان کو دو ڈھیروں A اور B میں تقسیم کر دیا۔ پہلی ڈھیری کو 2 روپے فی 3 کیلوں کے حساب سے بینے پر اور دوسرا ڈھیری کو ایک روپے فی کیلے کے حساب سے بینے پر اسے کل 400 روپے حاصل ہوئے۔ اگر وہ پہلی ڈھیری کو ایک روپے فی کیلے کے حساب سے اور دوسرا ڈھیری کو 4 روپے فی 5 کیلوں کے حساب سے بیچتا ہے تو اسے کل 460 روپے ملتے ہیں وجہ کے پاس کل کیلوں کی تعداد معلوم کیجیے۔

44۔ ریلے کی آدمی ٹکٹ کی قیمت پوری ٹکٹ کی قیمت سے آدمی ہے۔ مگر آدمی ٹکٹ اور پوری ٹکٹ پر بگنگ چارج برابر ہے۔ اسٹیشن A سے B تک کے ایک پورے ٹکٹ کی قیمت 2530 روپے ہے۔ جبکہ ایک پورے ٹکٹ اور ایک آدمی ٹکٹ کی بگنگ چارج سمیت کل قیمت 3810 روپے ہے۔ اسٹیشن B سے اسٹیشن A کے ایک پوری ٹکٹ کی قیمت اور بگنگ چارج معلوم کیجیے۔

45۔ خطوط $x+y=8$ اور $x=3y$ کے گراف سے بننے والے مثلث کے راس معلوم کیجیے۔

مساوی توں $3 = x$ ، $x = 5$ اور $0 = 4 - 2x - y$ کے گراف بنائیے ان خطوط اور x -محور سے بننے والے چار ضلعی کارتھ بھی معلوم کیجیے۔ - 46
 (NCERT-Exemplar)

30 کلو میٹر کی دوڑی طے کرنے میں انوراگ کو نشانے سے 3 گھنٹے زیادہ لگتے ہیں۔ اگر انوراگ اپنی رفتار دو گنی کرتا ہے تو وہ نشانے سے $1\frac{1}{2}$ گھنٹے آگے ہو جاتا ہے۔ دونوں کی چلائی کی رفتار میں معلوم کیجیے۔ - 47

ایک دو ہندسی عدیں، دہائی کا ہندسہ اکالی کے ہندسے کا 3 گناہے۔ اگر عدیں میں سے 54 کم کر دیا جائے تو ہندسے اپنے مقام تبدیل کر لیتے ہیں۔ عدد معلوم کیجیے۔ - 48

ایک دو ہندسی عدیں اپنے ہندسوں کے جوڑے کے 4 گناہے سے 3 زیادہ ہے۔ اگر اس عدیں میں 18 جوڑ دیا جائے تو ہندسے اپنا مقام تبدیل کر لیتے ہیں۔ عدد معلوم کیجیے۔ - 49

لامحمد و حمل کے لیے a اور b کی قدر میں معلوم کیجیے۔ - 50

$$2x - (a-4)y = 2b+1 \quad (\text{i})$$

$$4x - (a-1)y = 5b-1$$

$$2x + 3y = 7 \quad (\text{ii})$$

$$2ax + ay = 28 - by$$

جوابات

$b = 1, a = 3$.2	$K = \frac{15}{4}$.1
مربع اکائی $\frac{1}{2}$.4	c	.3
d	.6	$k \neq 6$.5
a	.8	$y = \frac{4 - 2x}{3}$.7
b	.10	a	.9
(0, -3)	.12	m = 1	.11
متوازی	.14	p = 2	.13
(0, 0)	.16	$K \neq \frac{-2}{3}$.15
متوازی	.18	$4x + 10y = 8$.17
قطع خطوط	.20	P = 3	.19
$P \neq 4$.22	$x - y = -3, 2x - y = 1$.21
4, 2	.24	$x = 5, y = 0$.23
42, 12	.26	$P = 30, y = -2, x = 5$.25
$4x + 6y + 10 = 0$ (i)	.28	(2, 2)	.27
$4x + 6y - 24 = 0$ (ii)			
$K = -6$.30	22, 88	.29
$y = b^2, x = a^2$.32	(0, 2) ↩ (0, -5) (2, 5)	.31
$K = -1$.34	$b = 1, a = 5$.33

$$x = 2 \quad .35$$

سال 40 .36

$$y = 1$$

روپے 20000 = T.V .38

سال 45 .37

روپے 10000 = فرٹن

روپے کے نوٹ 50 = .39

روپے کے نوٹ 100 =

$$(3, 3) \quad .40$$

(3, 3) اور (-1, 0) راس

رقبہ = 12 مریخ اکائی

کلومیٹرنی گھنٹہ 80 .41

کلومیٹرنی گھنٹہ 70

روپے 90,000 .42

روپے 1,20,000

مانڈھیری A میں کیلوں کی تعداد x .43

مانڈھیری B میں کیلوں کی تعداد y

$$\frac{2}{3}x + y = 400 \Rightarrow 2x + 3y = 1200 \quad (1)$$

$$x + \frac{4}{5}y = 460 \Rightarrow 5x + 4y = 2300 \quad (2)$$

$x = 300, y = 200$

کل کیلے = 500

ماں ایک پورے ٹکٹ کی قیمت x روپے ہے .44

ماں بگنگ چارج y روپے ہے
 $x + y = 2530$ — (1)

$$x + y + \frac{x}{2} + y = 3810$$

$$\frac{3x}{2} + 2y = 3810$$

$$3x + 4y = 7620 \quad \text{— (2)}$$

$$y = 30, x = 2500$$

مثلث کے راس (6,2) (4,4) (0,0) .45

D (3, 2) C (5, 6) B (5, 0) A (3, 0) .46

$$\frac{1}{2} \times AB(AD+BC) = \text{چارضلعی } ABCD \text{ کا رقبہ}$$

$$8 = \frac{1}{2} \times 2(6+2)$$

$\frac{10}{3}$ کلومیٹرنی گھنٹہ، 5 کلومیٹرنی گھنٹہ .47

93 .48

35 .49

$b = 3, a = 7$ (i) .50

$b = 8, a = 4$ (ii)

مشقی سوالات

دو متغیر والی مساواتوں کے جوڑے

وقت: 1 گھنٹہ

کل نمبر: 20

- 1 کی کس قیمت کے لیے مساواتوں $5x + ky + 7 = 0$ اور $x + 2y = 3$ کا صرف ایک حل ہو گا۔ -1
کیا خصوصیات (2,3) (خط $5x - 2y = 3$) کے گراف پر آئے گا؟ -2
مساویاتوں کا جوڑے کو گراف پر ظاہر کرنے والے خطوط ہوں گے۔ -3
متوازی (a) (a, b) (d) تابع (c) پرقطع (b) (b, a) (a)
کی کس قیمت کے لیے مساواتوں $6x - ky = -16$ اور $3x - y + 80 = 0$ کو ظاہر کرنے والے خطوط تابع ہوں گے۔ -4
اور a b کی کس قیمت کے لیے خطی مساواتوں کے جوڑے کے لامحدود حل ہیں۔ -5
$$ax + 3y = b$$
$$2x - 3y = 7$$

اور y کے لیے حل کیجیے۔ -6
$$0.4x + 0.3y = 1.7$$
$$0.7x - 0.2y = 0.8$$

اگر مساواتوں $6x + y = 3$ اور $Kx + y = 2$ کا صرف ایک حل ہو تو k کی قیمت معلوم کیجیے۔ -7
ترچھی ضرب کے طریقے سے x اور y کے لیے حل کیجیے۔ -8
$$x + y = a+b$$
$$ax - by = a^2 - b^2$$

ایک والد اور ان کے بیٹے کی عمروں کا حاصل جمع 40 سال ہے۔ اگر والد کی عمر بیٹے کی عمر کا تین گناہے تو وہوں کی عمریں معلوم کیجیے۔ -9

4

مندرجہ ذیل مساواتوں کے جوڑے کو گراف کی مدد سے حل کیجیے۔ 10-

$$3x + 5y = 12$$


$$3x - 5y = -18$$

باب 4

دودر جی مساوات

(Quadratic Equation)

اہم نکات:



نوت:

حقیقی اور مختلف جذر = $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ سے معلوم کیجیے۔ -1

حقیقی اور مساوی جذر = $\frac{-b}{2a}, \frac{-b}{2a}$ ہوتے ہیں۔ -2

کچھ دوسری مساواتوں کے جذر حقیقی نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر $x^2 + 1 = 0$ -3

مختصر ترین جواب والے سوالات

مندرجہ ذیل میں سے کوئی مساوات دوسری مساوات نہیں ہے؟ -1

$3x - x^2 = x^2 + 6$ (b) $2(x-1)^2 = 4x^2 - x + 1$ (a)

$(x^2 + 2x)^2 = x^4 + 3 + 4x^2$ (d) $(\sqrt{3}x + \sqrt{2})^2 = 2x^2 - 5x$ (c)

مندرجہ ذیل میں سے کس مساوات کا ایک جذر 2 ہوگا؟ -2

$x^2 - 4 = 0$ (b) $x^2 + 4 = 0$ (a)

$x^2 - 2 = 0$ (d) $x^2 + 3x - 12 = 0$ (c)

اگر مساوات $x^2 + px - \frac{5}{4} = 0$ کا ایک جذر $\frac{1}{2}$ ہو تو P کی قدر ہوگی؟ -3

$\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$ (c) -2 (b) 2 (a)

تمام دوسری مساواتوں کے زیادہ سے زیادہ جذر ہوں گے۔ -4

کتنے بھی ہو سکتے ہیں (الاعداد) (a) ایک (b) دو (c) 3 (d) 1

کے جذر ہوں گے۔ -5

0, 7 (d) 0, 5 (c) 0, -7 (b) 7 (a)

K کی کس قدر کے لیے دوسری مساوات $2x^2 + kx + 2 = 0$ جزر مساوی ہوں گے۔ -6

0 (d) -4 (c) ± 4 (b) 4 (a)

خالی جگہیں پر کچھے۔ -7

اگر مساوات $Px^2 + qx + r = 0$ کے جذر مساوی ہوں تو r کی قدر..... ہوگی۔ (a)

دودرجی مساوات $0 = x^2 - 5x - 6 = 0$ کو اگر $(x-p)(x-q) = 0$ کی شکل میں تبدیل کریں گے تو P اور q کی قدر بالترتیب اور ہوگی۔ (b)

کی قدر جس کے لیے دودرجی مساوات $0 = x^2 + 4x + k = 0$ کے جذر حقیقی ہوں گے ہوگی۔ (c)
(CBSE-2018)

اگر دودرجی مساوات $0 = 4x^2 - 2x + c = 0$ کے جذر ایک دوسرے کے ضربی مقلوب ہوں تو C کی قدر ہوگی۔ (d)

اگر دودرجی مساوات $0 = ax^2 + bx + c = 0$ میں a کی قدر صفر ہو جائے تو یہ مساوات ایک مساوات ہو جائیں گی۔ (e)

دودرجی مساوات $(5x-3)^2 = 2$ کے میز معلوم کچھے۔ -8

$$x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = 0 \quad -9$$

$$\frac{1}{2}, 1 \quad (b) \quad \frac{-1}{2}, 1 \quad (a)$$

$$\frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \quad (d) \quad \frac{-1}{2}, -1 \quad (c)$$

اگر دودرجی مساوات $0 = Px^2 - 2\sqrt{5}px + 15 = 0$ کی قدر معلوم کچھے۔ -10

مندرجہ ذیل مساواتوں کو اجزاء کے ضربی کے طریقے سے x کے لیے حل کریں۔ -11

$$8x^2 - 22x - 21 = 0 \quad (a)$$

$$3\sqrt{5}x^2 + 25x + 10\sqrt{5} = 0 \quad (b)$$

$$2x^2 + ax - a^2 = 0 \quad (c)$$

$$(CBSE 2010) \quad 3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0 \quad (d)$$

$$\sqrt{3}x^2 + 10x + 7\sqrt{3} = 0 \quad (\text{e})$$

$$\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0 \quad (\text{f})$$

$$(x - 1)^2 - 5(x - 1) - 6 = 0 \quad (\text{g})$$

(CBSE-2020) a کی کس قدر کے لیے دو درجی مساوات $3ax^2 - 6x + 1 = 0$ کے غیر حقیقی جذر ہوں گے۔ - 12

اگر -5 ، دو درجی مساوات 0 کا ایک جذر ہوا اور دو درجی مساوات 0 کے جذر - 13

(CBSE-2014,16) مساوی ہوں تو k کی قدر معلوم کیجیے۔

اگر $x = -3$ اور $x = -1$ دو درجی مساوات 0 کے جذر ہوں تو a اور b کی قدر معلوم کیجیے۔ - 14
(CBSE-2016)

P کی کس قدر کے لیے دو درجی مساوات 0 کے جذروں کا حاصل ضرب اور جذروں کا حاصل جمع مساوی ہو گا۔ - 15

دو مربعوں کے اضلاع x cm اور $(x + 4)$ cm ہیں۔ ان کے رقبوں کا حاصل جمع 656cm^2 ہے۔ ان دونوں مربعوں کے اضلاع معلوم کیجیے۔ - 16

دو درجی مساوات $0 = x^2 - 5x + (3k - 3)$ کے جذروں کا فرق 11 ہو تو k کی قدر معلوم کیجیے۔ - 17

مختصر جواب والے سوالات

اگر دو درجی مساوات 0 کی ثابت قدر معلوم کیجیے۔ - 18
کے جذر حقیقی ہوں تو k کی ثابت قدر معلوم کیجیے۔
x کے لیے حل کیجیے۔ - 19

$$a, b, x \neq 0 \quad a + b + x \neq 0; \frac{1}{a+b+x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{x} \quad (\text{a})$$

$$a, b, x \neq 0 \quad 2a + b + 2x \neq 0; \frac{1}{2a+b+2x} = \frac{1}{2a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{2x} \quad (\text{b})$$

$$x \neq 3, \frac{-3}{2}; \frac{2x}{x-3} + \frac{1}{2x+3} + \frac{3x+9}{(x-3)(2x+3)} = 0 \quad (\text{c})$$

$$(CBSE-2010) \quad 4x^2 + 4bx - (a^2 - b^2) = 0 \quad (d)$$

$$x \neq 1 - 5 ; \quad \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+5} = \frac{6}{7} \quad (e)$$

$$4x^2 - 2(a^2 + b^2)x + a^2b^2 = 0 \quad (f)$$

$$x \neq 0, -1, 2 \quad \frac{2}{x+1} + \frac{3}{2(x-2)} = \frac{23}{5x} \quad (g)$$

$$x \neq 5 \quad \left(\frac{2x}{x-5} \right)^2 + \frac{10x}{(x-5)} - 24 = 0 \quad (h)$$

$$4x^2 - 4a^2x + a^4 - b^4 = 0 \quad (i)$$

$$2a^2x^2 + b(6a^2 + 1)x + 3b^2 = 0 \quad (j)$$

$$x \neq \frac{3}{5}, \frac{-1}{7} ; 3\left(\frac{7x+1}{5x-3}\right) - 4\left(\frac{5x-3}{7x+1}\right) = 11 \quad (k)$$

$$x \neq -4, 7 \quad \frac{1}{x+4} - \frac{1}{x-7} = \frac{11}{30} \quad (l)$$

$$(NCERT-2014) \quad x \neq 5, 7 \quad \frac{x-4}{x-4} + \frac{x-6}{x-7} = \frac{10}{3} \quad (m)$$

$$x \neq -1, -2, -4 \quad \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} = \frac{4}{x+4} \quad (n)$$

$$x \neq \frac{3}{2}, 5 \quad \frac{1}{2x-3} + \frac{2}{x-5} = 1 \quad (o)$$

$$x^2 + 5\sqrt{5}x - 70 = 0 \quad (p)$$

$$(CBSE-2014) \quad x \neq 0, -1 \quad \frac{16}{x} - 1 = \frac{15}{x+1} \quad (q)$$

دورو جی فارمو لے کی مدد سے مساوات - 20

$$\text{کو حل کیجیے۔} \quad abx^2 + (b^2 - ac)x - bc = 0$$

اگر دورو جی مساوات $0 = (p+1)x^2 - 6(p+1)x + 3(p+9)$ کی قدر معلوم کیجیے۔ مساوات کے جذر بھی معلوم کیجیے۔ - 21

22۔ دو درجی مساوات $0 = 4 - 4\sqrt{3x} + 3x^2$ کے جذروں کی فطرت معلوم کیجیے۔ اگر جذر حقیقی ہوں تو انہیں معلوم کیجیے۔
(CBSE-2020)

23۔ دو درجی فارمولے کی مدد سے مساوات $0 = b^4 - a^2x + 9x^2 - 6a^2x$ کو حل کیجیے۔
(CBSE-2020)

طويل جواب والے سوالات

24۔ ایک ریل گاڑی 54 کلومیٹر کا فاصلہ کسی اوسط رفتار سے طے کرتی ہے۔ اور پھر 63 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے اپنی اوسط رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ بڑھا لیتی ہے۔ اگر ریل گاڑی پورا سفر طے کرنے میں 3 گھنٹے کا وقت لیتی ہے تو اس کی اوسط رفتار معلوم کیجیے۔

25۔ ایک فطری عدد میں 12 بڑھانے پر وہ عدد اپنے ضربی ممکوس کا 160 گناہ جاتا ہے۔ وہ عدد معلوم کیجیے۔

26۔ ایک چور 100 میٹر فی منٹ کی رفتار سے بھاگ رہا ہے۔ اس کے ایک منٹ بعد ایک پولس والا اس چور کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ پہلے منٹ میں 100 میٹر کی رفتار سے بھاگتا ہے اور ہر بڑھتے منٹ میں اپنی رفتار 10 میٹر فی منٹ بڑھادیتا ہے۔ کتنے منٹ کے بعد پولس والا اس چور کو پکڑے گا؟

27۔ پانی کے دونوں ایک ساتھ ٹینک کو بھرنے میں 6 گھنٹے کا وقت لیتے ہیں۔ بڑے قطر والا ٹینک بھرنے میں چھوٹے قطر والے ٹینک کے مقابلے 9 گھنٹے کم لیتا ہے۔ وہ وقت معلوم کیجیے جس میں یہ دونوں ٹینکوں کا لگ لگ ٹینک کو بھردیں گے۔

28۔ ایک مستطیل نما پارک جس کے ابعاد $40m \times 50m$ ہیں۔ اس پارک کے پیچے میں ایک مستطیل نما تالاب کی تعمیر اس طرح کرنی ہے تاکہ اس کے چاروں پر طرف گھاس کا رقبہ 1184 مربع میٹر ہو۔ اس تالاب کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کیجیے۔

29۔ ایک کسان 100 مربع میٹر کا ایک مستطیل نما باغ لگانا چاہتا ہے۔ اس کے پاس صرف 30 میٹر کا نئے دار تار ہے جسے وہ اس باغ کے تین طرف لگاتا ہے۔ اور اپنے مکان کی دیوار کو چوتھی طرف کی باڑ کی طرح استعمال کرتا ہے۔ اس باغ کے ابعاد معلوم کیجیے۔

30۔ ایک مور 9 میٹر اونچے مینار کے اوپر بیٹھا تھا۔ مینار کے اساس سے 27 میٹر کے فاصلے پر ایک سانپ ہے جو اپنے بل کی طرف آرہا ہے جو مینار کے اساس پر ہے۔ سانپ کو دیکھ کر مور اس پر جھپٹتا ہے۔ اگر دونوں کی رفتار برابر ہو تو بل سے کتنے فاصلے پر مور اس سانپ کو پکڑے گا؟

- 31- اگر کسی کتاب کی قیمت 5 روپے گھٹا دی جائے تو کوئی شخص 300 روپے میں 5 کتابیں زیادہ خرید پائے گا کتاب کی اصلی قیمت معلوم کیجیے۔
- 32- 6500 روپے کی رقم کو کچھ لوگوں میں یکساں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر 20 لوگ اور آجائیں تو ہر شخص کو 30 روپے کم حاصل ہوں گے۔ لوگوں کی تعداد معلوم کیجیے۔
- 33- خراب موسم کی وجہ سے ایک ہوائی جہاز کو 600km کا فاصلہ طے کرنے کے لیے اپنی اوسط رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کم کرنی پڑی جس کی وجہ سے ہوائی جہاز 30 منٹ کی تاخیر سے پہنچا۔ اس اڑان کا وقت معلوم کیجیے۔
- 34- 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں ایک نیز رفتار ریل گاڑی بہت یکلی رفتار ریل گاڑی سے 3 گھنٹہ کم لیتی ہے۔ اگر ہمکی رفتار والی ریل گاڑی کی رفتار نیز رفتار والی ریل گاڑی سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کم ہوتی تو دونوں ریل گاڑیوں کی رفتار معلوم کیجیے۔
- 35- ایک موڑ بوث جس کی ٹھہرے ہوئے پانی میں چال 15 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ 30 کلومیٹر کا فاصلہ بہاؤ کے خلاف جا کر واپس اپنے شروعاتی نقطہ پر آنے میں 4 گھنٹہ 30 منٹ کا وقت لیتی ہے۔ بہاؤ کی رفتار معلوم کیجیے۔
- 36- دو مربouوں کے رقبوں کا حاصل جمع cm^2 400 ہے۔ اگر ان کے احاطوں کا فرق cm 16 ہے تو دونوں مربouوں کے اضلاع کی لمبا نیاں معلوم کیجیے۔
- 37- ایک مساوی اساقین مثلث کا رقبہ cm^2 60 ہے اور اس کے دونوں مساوی اضلاع کی لمبا نیاں cm 13 ہے۔ اس کا اساس (قاعده) معلوم کیجیے۔
- 38- کسی کسر کا نسب نما اس کے شمارکنندہ کے دو گنے سے ایک زیادہ ہے۔ اگر اس کسر اور اسکے معکوس کو جوڑیں تو $\frac{16}{21}^2$ حاصل ہوتا ہے۔ کسر معلوم کیجیے۔
- 39- ایک لڑکی کی عمر اپنی بہن کی عمر کی دو گنی ہے۔ چار سال کے بعد دونوں کی عرونوں کا حاصل ضرب 160 ہو گا۔ ان کی موجودہ عمر میں معلوم کیجیے۔
- 40- ایک دو ہندسی عدد کے ہندسوں کا حاصل ضرب 18 ہے۔ جب اس عدد میں سے 63 گھٹایا جاتا ہے تو ہندسے اپنا مقام بدلتے ہیں۔ عدد معلوم کیجیے۔

تین مسلسل ثبت صحیح اعداد اس طرح ہیں کہ پہلے عدد کا مرکع اور باقی دو اعداد کے حاصل ضرب کا حاصل جمع 46 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔ -41
(CBSE-2010)

ایک کپڑے کی کل قیمت 200 روپے ہے۔ اگر کپڑے کی لمبائی m 5 زیادہ ہوتی اور قیمت 2 روپے فی میٹر کم ہوتی تو کپڑے کی کل قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کپڑے کی لمبائی اور فی میٹر کپڑے کی اصل قیمت معلوم کیجیے۔ -42

ایک موٹر بوٹ جس کی ٹھہرے ہوئے پانی میں چال 24 کلومیٹرنی گھنٹہ ہے، 32 کلومیٹر کا فاصلہ ایک ہی مقام تک بہاؤ کے خلاف چلنے میں 1 گھنٹہ زیادہ لیتی ہے نسبت بہاؤ کے ساتھ چلنے میں۔ بہاؤ کی چال معلوم کیجیے۔ -43

$C^2 = a^2 (1+m^2) (1 + m^2) n^2 x^2 + 2mncx + (c^2 - a^2) = 0$ اگر مساوات 0 کے جذر مساوی ہوں تو ثابت کیجیے۔ -44

اگر دو رجی مساوات 0 = $C^2 = a^2 (1+m^2) (b-c) x^2 + (c-a)x + (a-b)$ کے جذر مساوی ہوں تو ثابت کیجیے کہ $(1+m^2)$ -45

ایک ریل گاڑی 480 کلومیٹر کا فاصلہ یکساں رفتار سے طے کرتی ہے۔ اگر رفتار 8 کلومیٹرنی گھنٹہ کم ہوتی تو اس فاصلے کو طے کرنے میں 3 گھنٹے زیادہ لگتے۔ ریل گاڑی کی اصل رفتار معلوم کیجیے۔ -46

ایک مستطیل نما پارک تیار کرنا ہے جس کی چوڑائی اس کی لمبائی سے 3 میٹر کم ہے۔ اس پارک کا رقبہ ایک مساوی الساقین مثلث نما پارک کے رقبے سے 4 مرلے میٹر زیادہ ہے جو اس مستطیل نما پارک کی چوڑائی کو قاعدہ مان کر بنایا گیا ہے۔ مثلث نما پارک کی اونچائی 12 میٹر ہے۔ مستطیل نما پارک کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کیجیے۔ -47
(CBSE-2010)

جوابات اور اشارے

$$[3 = \text{درجہ} \iff 4x^3 \iff x^4 + 4x^2 + 4x^3 = x^4 + 3 + 4x^2] \quad (d) \quad -1$$

$$x = 2) \quad \text{مساوات میں رکھ کر جانچ کریں) } \quad (b) \quad -2$$

$$x = \frac{1}{2}) \quad \text{مساوات میں رکھ کر) } \quad (a) \quad -3$$

(ایک دو رجی مساوات کا درجہ 2 ہوتا ہے اور اس کے زیادہ سے زیادہ 2 جذر ہوتے ہیں) -4

$$x = 0, 7 \iff x (x-7) = 0 \quad (d) \quad -5$$

$$\pm 4 \quad (b) \quad -6$$

$$r = \frac{q^2}{4p} \quad (a) \quad -7$$

$$q = 1, p = -6 \quad (b)$$

$$K \leq 4 \quad (c)$$

$$C = 4 \quad (d)$$

$$\text{خط مساوات} \quad (e)$$

$$D = -124 \quad (a) \quad -8$$

$$1, \frac{-1}{2} \quad (a) \quad -9$$

$$D = 0 \quad -10$$

$$20p^2 - 60p = 0$$

$$20p(p-3) = 0$$

$$p \neq 0, \quad p = 3$$

$$x = \frac{7}{2}, x = -\frac{3}{4} \quad (a) \quad -11$$

$$x = -\sqrt{5}, x = \frac{-2\sqrt{5}}{3} \quad (b)$$

$$x = \frac{a}{2}, x = -a \quad (c)$$

$$x = \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad x = -\sqrt{\frac{2}{3}} \quad (d)$$

$$x = -\sqrt{3}, x = \frac{-7\sqrt{3}}{3} \quad (e)$$

$$x = -\sqrt{2}, \quad x = \frac{-5\sqrt{2}}{2} \quad (f)$$

$$(x - 1) = y \rightarrow \quad (g)$$

$$x = 0 \quad x = 7$$

$$D < 0 \quad -12$$

$$(-6)^2 - 4(3a)(1) < 0$$

$$12a > 36$$

$$\Rightarrow a > 3$$

$$2(-5)^2 + p(-5) - 15 = 0 \quad -13$$

$$P = 7$$

$$7x^2 + 7x + k = 0$$

$$D = 49 - 28k$$

$$k = \frac{49}{28} = \frac{7}{4}$$

$$4a + 9b = -42 \quad \text{پرکھنے کے لئے } x = \frac{2}{3} \quad -14$$

$$9a + b = 21 \quad \text{پرکھنے کے لئے } x = 3$$

$$b = -6, a = 3 \quad \text{حل کرنے کے لئے }$$

$$4 = \frac{4p}{p} = \frac{c}{a} = \frac{c}{a} \quad \text{حاصل ضرب} \quad -15$$

$$\frac{-6}{p} = \frac{-b}{a} = \text{حاصل ضرب}$$

$$\frac{-6}{p} = 4 \Rightarrow P = \frac{-3}{2}$$

$$x^2 + (x+4)^2 = 656 \quad -16$$

$$x^2 + 4x - 320 = 0$$

$$D = 1296$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{1296}}{2 \times 1} = \frac{-4 + 36}{2}, \frac{-4 - 36}{2}$$

$$x = 16 \quad x \neq -20$$

$$20\text{cm} \rightarrow 16\text{cm} = \text{املاع}$$

سوال کے مطابق - 17

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} = 5$$

$$\beta = 3, \quad \alpha = 8$$

$$24 = 3k - 3 \leftarrow \frac{c}{a} =$$

جذروں کا حاصل ضرب

$$K = 7$$

$$x^2 + kx + 64 = 0 \quad - 18$$

$$D_1 = k^2 - 256 \geq 0$$

$$k^2 \geq 256$$

$$K \geq 16 - (1), k \leq -16$$

$$x^2 - 8x + k = 0$$

$$D_2 = 64 - 4k \geq 0$$

$$K \leq 16 - (2)$$

$$\leftarrow (2) \text{ اور } (1)$$

$$K=16$$

$$\frac{1}{a+b+x} - \frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \quad (a) \quad - 19$$

$$\frac{x-a-b-x}{(a+b+x)x} = \frac{a+b}{ab}$$

$$-(a+b) ab = (a+b)(a+b+x)x$$

$$x^2 + xa + bx + ab = 0$$

$$(x+a)(x+b) = 0$$

$$x = -a, x = -b$$

$$\text{کی طرح حل کریں} \quad (a) \quad (b)$$

$$\text{آسان کرنے پر} \quad 2x^2 + 5x + 3 = 0 \quad (c)$$

$$x = -1, \quad x \neq \frac{-3}{2}$$

$$A^2 - B^2 = (A+B)(A-B) \quad 4x^2 + 4bx + b^2 - a^2 = 0 \quad (d)$$

$$(2x + b)^2 - a^2 = 0$$

$$(2x + b - a)(2x + b + a) = 0$$

$$x = \frac{a-b}{2}, \quad x = \frac{-(a+b)}{2}$$

$$x^2 + 4x - 12 = 0 \quad \text{پر کریں} \quad (e)$$

$$x = 2, -6$$

$$4x^2 - 2a^2x - 2b^2x + a^2b^2 = 0 \quad (f)$$

$$2x(2x-a^2) - b^2(2x-a^2) = 0$$

$$(2x-a^2)(2x-b^2) = 0$$

$$x = \frac{b^2}{2}, \quad x = \frac{a^2}{2}$$

$$11x^2 - 21x + 92 = 0 \quad \text{پر کریں} \quad (g)$$

$$11x^2 - 44x + 23x - 92 = 0$$

$$x = 4, x = \frac{-23}{11}$$

$$\frac{2x}{x-5} = y \leftarrow \quad (h)$$

$$y^2 + 5y - 24 = 0$$

$$y = 3, y = -8$$

$$\frac{2x}{x-5} = 3, \quad \frac{2x}{x-5} = -8$$

$$x = 15, \quad x = 4$$

$$4x^2 - 4a^2x + a^4 - b^4 = 0 \quad (i)$$

$$(2x-a^2)^2 - (b^2)^2 = 0$$

$$(2x-a^2-b^2)(2x-a^2+b^2) = 0$$

$$x = \frac{a^2 + b^2}{2}, \quad x = \frac{a^2 - b^2}{2}$$

$$D = b^2(6a^2 - 1)^2 \quad \text{جیسے} \quad (j)$$

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{D}}{2A}$$

$$x = \frac{-b}{2a^2}, -3b = x$$

$$\frac{7x+1}{5x-3} = y \quad (\text{l}) \quad (\text{k})$$

$$3y - \frac{4}{y} = 11$$

$$3y^2 - 4 = 11y$$

$$3y^2 - 11y - 4 = 0$$

$$y = \frac{-1}{3}, y = 4$$

$$\frac{7x+1}{5x-3} = \frac{-1}{3}, \frac{7x+1}{5x-3} = 4$$

$$x = 0, x = 1$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \quad (\text{l})$$

$$x = 1, x = 2$$

$$2x^2 - 27x + 88 = 0 \quad (\text{m})$$

$$x = 8, x = \frac{11}{2}$$

$$x^2 - 4x - 8 = 0 \quad (\text{n})$$

$$x = 2 \pm 2\sqrt{3}$$

$$2x^2 - 16x + 23 = 0 \quad (\text{o})$$

$$x = \frac{-8 \pm 3\sqrt{2}}{2}$$

$$x^2 + 7\sqrt{5}x - 2\sqrt{5}x - 70 = 0 \quad (\text{p})$$

$$(x + 7\sqrt{5})(x - 2\sqrt{5}) = 0$$

$$x = 2\sqrt{5}, x = -7\sqrt{5}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{16-x}{x} &= \frac{15}{x+1} && \text{(q)} \\
 x^2 - 16 &= 0 \\
 x &= \pm 4 \\
 abx^2 + (b^2 - ac)x - bc &= 0 && -20 \\
 D &= (b^2 - ac)^2 - 4 \times ab \times (-bc) \\
 &= b^4 + a^2c^2 - 2b^2 + 4b^2ac \\
 &= b^4 + a^2c^2 + 2b^2ac \\
 D &= (b^2 + ac)^2 \\
 x &= \frac{-B + \sqrt{D}}{2A} \\
 = -\frac{-(b^2 - ac) + (b^2 + ac)}{2ab}, x &= -\frac{-(b^2 - ac) - (b^2 + ac)}{2ab} \\
 x &= -\frac{-b^2 - ac + b^2 + ac}{2ab}, x = -\frac{-b^2 + ac - b^2 - ac}{2ab} \\
 x &= \frac{2ac}{2ab} && x = \frac{-2b^2}{2ab} \\
 x &= \frac{c}{b} && x = \frac{-b}{a}
 \end{aligned}$$

جذر مساوی ہیں -21

$$D = 0 \leftarrow$$

$$[-6(P+1)]^2 - 4 \times (P+1) \times 3(P+q) = 0$$

$$36(P+1)^2 - 12(P+1)(P+9) = 0$$

$$P^2 - 2P - 3 = 0$$

$$\Rightarrow P = -1, P = 3$$

$$P = 3 \leftarrow$$

$$D = (-4\sqrt{3})^2 - 4(3)(4) = 0 & -22$$

جذر حقیقی اور مساوی ہیں۔

$$x = \frac{-b}{2a}, \quad x = \frac{-b}{2a}$$

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad x = \frac{2}{-\sqrt{3}}$$

$$x = \frac{a^2 + b^2}{3}, \quad x = \frac{a^2 - b^2}{3} \quad -23$$

مانا اوسط چال = x کلومیٹرنی گھنٹہ

برہی ہوئی چال = $(x + 6)$ کلومیٹرنی گھنٹہ

$$\frac{54}{x} + \frac{63}{x+6} = 3$$

$$x = 36, x = -3$$

ممکن نہیں

مانافطری عدد x ہے

$$x + 12 = \frac{160}{x}$$

$$x^2 + 12x - 160 = 0$$

$$(x + 20)(x - 8) = 0$$

$$x = -20 \quad x = 8$$

مانا کل وقت = n منٹ

پولیس والے کے ذریعے لیا گیا وقت $(n-1)$ منٹ

چور کے ذریعے طے کی گئی دوری = $100 n$ میٹر

پولیس والے کے ذریعے طے کی گئی دوری = رکن $(n-1)$

$$100 n = \frac{(n-1)}{2} [2 \times 100 + (n-2) 100]$$

$$n^2 - 3n - 18 = 0$$

$$n = 6, \quad n = -3$$

ممکن نہیں

پولیس والا چور کو 5 منٹ میں پکڑ لے گا۔

چھوٹے قطر والے مل کے ذریعے لیا گیا وقت = x گھنٹے -27

بڑے قطر والے مل کے ذریعے لیا گیا وقت = $(x - 9)$ گھنٹے

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x-9} = \frac{1}{6}$$

$$x^2 - 21x + 54 = 0$$


$$x = 3, \quad x = 18$$

$$x = 3 \quad x - 9 = 3 - 9 = -6 < 0$$

ممکن نہیں

$x = 18$ = چھوٹے قطر والے مل کے ذریعے لیا گیا وقت گھنٹے

$x - 9 = 9$ = بڑے قطر والے مل کے ذریعے لیا گیا وقت گھنٹے



-28

مستطیل نمایا پارک کا رقبہ = 50×40

مستطیل نمایا تالاب کا رقبہ = $(50 - 2x)(40 - 2x)$

سوال کے مطابق $50 \times 40 - (50 - 2x)(40 - 2x) = 0$

$$x^2 - 45x + 296 = 0$$

$$x = 37, \quad x = 8$$


ممکن نہیں $x = 37$

$$40 - 2x = 40 - 2(37) = 34 < 0$$

تالاب کی لمبائی = $34m = 50 - 2 \times 8 = 34m$

تالاب کی چوڑائی = $24m = 40 - 2 \times 8 = 24m$

مکان کی دیوار



-29


$$x + y + x = 30$$

$$2x + y = 30$$

$$xy = 100$$

$x = 10\text{m}$, $x = 5\text{m}$ آسان کریں

$$y = 10\text{m}, y = 20\text{m}$$



میں فیٹا غورث مسئلہ سے

$$(9)^2 + (x)^2 = (27 - x)^2$$

حل کرنے پر

مانا قیمت x روپے ہے -31

$$\frac{300}{x-5} - \frac{300}{x} = 5 \quad \text{سوال کے مطابق}$$

$$x = 20, x = -5$$

روپے 20

مانالوگوں کی تعداد x تھی -32

$$\frac{6500}{x} - \frac{6500}{x+15} = 30 \quad \text{سوال کے مطابق}$$

حل کرنے پر


مکن نہیں

مانا جہاز کی معمول والی رفتار x کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ -33

$$\frac{600}{x-200} - \frac{600}{x} = \frac{30}{60} \quad \text{سوال کے مطابق}$$

حل کرنے پر

$$\text{اڑان کا وقت} = \frac{600}{600} = 1 \text{ گھنٹہ}$$



ہلکی رفتار والی ریل گاڑی کی رفتار x کلومیٹرنی گھنٹے -34

$$\frac{600}{x} - \frac{600}{x+10} = 3$$

$$x = 40 \quad x = -50 \\ \text{ممکن نہیں}$$

ریل گاڑی کی رفتار = 40 کلومیٹرنی گھنٹے

مانابہاؤ کی رفتار x کلومیٹرنی گھنٹے -35

$$\frac{30}{15-x} + \frac{30}{15+x} = \frac{9}{2}$$

$$x = 5, x = -5 \\ \times \\ \text{بہاؤ کی رفتار } 5 \text{ کلومیٹرنی گھنٹے ہے۔}$$

$$x^2 + y^2 = 400 \quad (1) \\ 4y - 4x = 16 \quad \text{یا} \quad 4x - 4y = 16$$

$$y - x = 4 \quad (3) \quad \text{یا} \quad x - y = 4 \quad (2)$$

$$x = -12 \quad x = 16 \quad (1) \quad \text{اور} (2) \text{ کو حل کرنے پر}$$

$$x = -16 \quad x = 12 \quad (1) \quad \text{اور} (3) \text{ کو حل کرنے پر} \\ \text{ممکن نہیں}$$

$$y = 12m, x = 16m$$

$$y = 16m, x = 12m$$

$$BC = 2x \quad -37$$

$$BD = x$$

$$AD = \sqrt{169 - x^2}$$

$$60 = \frac{1}{2} \times 2x \times \sqrt{169 - x^2} \quad \text{تقریب}$$

$$x^2 = 144, x^2 = 25$$

$$x = 12, x = 5 \quad (x = -12, -5) \\ \text{ممکن نہیں}$$

$$10\text{cm} \downarrow 24\text{cm} = 2x = 15\text{cm}$$

$$\frac{x}{2x+1} = \text{کسر} \quad -38$$

$$\frac{x}{2x+1} + \frac{2x+1}{x} = 2 \frac{16}{21} = \frac{58}{21}$$

$$x = 3, \quad x = \frac{-7}{11}$$

ممکن نہیں \times

$$\frac{3}{7} = \text{کسر}$$

$$\text{مانابہن کی عمر} = x \text{ سال} \quad -39$$

$$\text{بڑی کی عمر} = 2x$$

$$(x+4)(2x+4) = 160 \quad \text{سوال کے مطابق}$$

$$x = 6, x = -12$$

ممکن نہیں

$$2x = 12$$

$$\text{بہن کی عمر} = 6 \text{ سال}$$

$$\text{بڑی کی عمر} = 12 \text{ سال}$$

$$(x = 6, \text{ دہائی کا ہندسے} = \frac{18}{x}) \quad (6 \text{ کا دہائی کا ہندسے} = 18) \quad 10x + \frac{18}{x} = 63 \quad -40$$

$$\left(10x + \frac{18}{x} \right) - \left(\frac{10 \times 18}{x} + x \right) = 63$$

$$x = 9, x = -2$$

ممکن نہیں

$$\text{عدد} = 92$$

$$\text{مانا عدد} = x+2, \quad x+1 \quad -41$$

$$x^2 + (x+1)(x+2) = 46 \quad \text{سوال کے مطابق}$$

$$2x^2 + 3x - 44 = 0$$

$$x = 4, \quad x = -\frac{22}{4}$$

ممکن نہیں

$$\text{اعداد} 4, 5 \text{ اور} 6 \text{ ہیں}.$$

مانا کپڑے کی لمبائی x میٹر -42

$$\frac{200}{x} - \frac{200}{x+5} = 2 \quad \text{سوال کے مطابق}$$

$$x = 20, \quad x = -25$$

$$\text{قیمت فی میٹر } 10 = \frac{200}{20} = \frac{200}{x} \quad \text{روپے}$$

مانا بہاؤ کی رفتار x کلومیٹرنی گھنٹہ -43

$$\frac{32}{24-x} - \frac{32}{24+x} = 1 \quad \text{سوال کے مطابق}$$

$$x^2 + 64x - 576 = 0$$

$$(x + 72)(x - 8) = 0$$

$$x = -72 \quad x = +8 \\ \text{ممکن نہیں}$$

بہاؤ کی رفتار 8 کلومیٹرنی گھنٹہ ہے۔

D = 0 رکھنے پر -44

$$(c - a)^2 - 4(b - c)(a - b) = 0$$

$$(a + c - 2b)^2 = 0$$

$$a + c = 2b$$

D = 0 -45

$$(2mnc)^2 - 4(1+m^2)n^2(c^2-a^2) = 0$$

حل کرنے پر

$$4n^2c^2 = 4n^2a^2(1+m^2)$$

$$C^2 = a^2(1+m^2)$$

ماناریل گاڑی کی رفتار x کلومیٹرنی گھنٹہ ہے۔ -46

$$\frac{480}{x-8} - \frac{480}{x} = 3 \quad \text{سوال کے مطابق}$$

$$x^2 - 8x - 1280 = 0$$

$$x = 40 \quad x = -32$$

ممکن نہیں

ریل گاڑی کی رفتار 40 کلومیٹرنی گھنٹہ ہے۔

مانا مستطیل نما پارک کی لمبائی x میٹر ہے۔ چوڑائی $(x-3)$ میٹر - 47

سوال کے مطابق

مستطیل نما پارک کا رقبہ = مثلث نما پارک کا رقبہ +

$$4 + \frac{1}{2}(12)(x-3) = x(x-3)$$

$$4+6x-18 = x^2-3x$$

$$x^2-9x+14 = 0$$

$$x = 7, x = 2$$

ممکن نہیں

لمبائی $7 \text{ m} =$

$$\text{چوڑائی } 4 \text{ m} = 7-3 = 4 \text{ m}$$

مشقی سوالات

کل نمبر: 20

وقت: 1 گھنٹہ

- 1 اگر $x = 3$ دو درجی مساوات $0 = x^2 - 2kx - 6$ کا ایک جذر ہو تو k کی قدر ہوگی؟ -1
- 1 اگر مساوات $0 = x^2 - 4x + 2 = 0$ کا ممیز مساوات $3x^2 + 2x + \alpha = 0$ کے ممیز کا دو گناہو تو α کی قدر ہوگی۔ -2
- 1 اگر مساوات $0 = 6x^2 - bx + 2 = 0$ کا ممیز 1 ہو تو b کی قدر ہوگی -3
- 1 ایک دو درجی مساوات ہے۔ $(x-1)^3 = x^3 + 1$ (صحیح/غلط) -4
- 2 اگر مساوات $0 = x^2 + kx + 12 = 0$ کے جذر کی نسبت 3:1 ہو تو k کی قدر کیا ہوگی؟ -5
- 2 x کے لیے حل کیجیے۔ $21x^2 - 2x + \frac{1}{21} = 0$ -6
- 2 اگر دو درجی مساوات $0 = kx(x-2) + 6 = 0$ کے جذر مساوی ہوں تو k کی قدر معلوم کیجیے۔ -7
- 3 دو درجی فارمولے سے حل کیجیے۔ $4\sqrt{3}x^2 + 5x - 2\sqrt{3} = 0$ -8
- 3 K کی کس قدر کے لیے $0 = (4-k)x^2 + (2k+4)x + (8x+1)$ ایک کامل مریع ہوگی -9
- 4 دوں ایک ٹینک کوٹ کر $\frac{7}{8}$ گھنٹے میں بھرتے ہیں۔ بڑے قطر والائی چھوٹے قطر والائی کے مقابلے ٹینک کو اکیلا بھرنے میں 2 گھنٹے کم لیتا ہے۔ دونوں تل الگ الگ ٹینک کو بھرنے میں کتنا وقت لیں گے۔ -10

(CBSE- 2018)

باب 5

حسابی تصادع

(Arithmetic Progression)

مختصر ترین جواب والے سوالات

- اگر کسی A.P کا n واں رکن $5 - 3n$ ہے تو 5 واں رکن معلوم کیجیے۔ - 1
- پہلے 10 جفت فطری اعداد کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ - 2
- طاں اعداد کا n واں رکن لکھیے۔ - 3
- پہلے n فطری اعداد کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ - 4
- پہلے n جفت اعداد کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ - 5
- حسابی تصادع کا n واں رکن معلوم کیجیے۔ - 6
- $4\frac{1}{9}, 4\frac{2}{9}, 4\frac{1}{3}, \dots \dots \dots$ A.P. کا مشترک فرق معلوم کیجیے۔ - 7
- AP کا مشترک فرق لکھیے جس کا n واں رکن $a_n = 3n + 7$ ہے۔ - 8
- مندرجہ ذیل AP کے لیے $a_8 - a_4$ معلوم کیجیے۔ - 9
- $4, 9, 14, \dots \dots \dots, 254$
- کے لیے $a_{30} - a_{10}$ کی قدر معلوم کیجیے۔ - 10
- اگر $5, k - 2, 3$ حسابی تصادع میں ہیں تو k کی قدر معلوم کیجیے۔ - 11
- p کی کس قدر کے لیے نیچے دیے ہوئے رکن کسی AP کے تین مسلسل رکن ہوں گے؟ - 12
- $\frac{4}{5}, p, 2$

اس AP کا 36 واں رکن معلوم کیجیے جس کے پہلے دو رکن باترتبی 3 اور 4 ہیں۔ - 13

10, 7, 4, A.P (i) - 14

-87 (d) -77 (c) 87 (b) 97 (a)

$a_3 = 3, d = -\frac{1}{2}$, 2, A.P (ii)

$-48 \frac{1}{2}$ (d) -38 (c) 22 (b) 28 (a)

کسی AP میں $a_n = 7$, $n = 7$, $d = -4$ تو a کی قیمت (iii)

28 (d) 120 (c) 7 (b) 6 (a)

کسی AP کے پہلے 3 رکن باترتبی $3y-1, 3y+5$ اور $5y+1$ ہیں۔ y کی قیمت (iv)

2 (d) 5 (c) 4 (b) -3 (a)

دیئے ہوئے اعداد (v)

$d = -16$ ایک AP ہے جس میں (a)

$d = 4$ ایک AP ہے جس میں (b)

$d = -4$ ایک AP ہے جس میں (c)

نہیں ہے۔ (d)

کے آخری رکن سے 11 واں رکن 10, 7, 4, A.P (vi)

0 (d) 16 (c) -32 (b) 25 (a)

پہلے 100 فطری اعداد کا حاصل جمع معلوم کرنے والے مشہور ریاضی دان کا نام (vii)

فیثاغورث (a) نیوٹن (b)

گاس (c) افلاطین (d)

اس AP کا مشترک فرق جس میں $a_{18} - a_{14} = 32$ (viii)

4 (d) -4 (c) -8 (b) 8 (a)

n کا $(1 + 3\sqrt{3}), (1 + 2\sqrt{3}), (1 + \sqrt{3})$ A.P (ix)

$n\sqrt{3}$ (d) $n(1 + 3\sqrt{3})$ (c) $n + \sqrt{3}$ (b) $1 + n\sqrt{3}$ (a)

- کسی AP کا پہلا رکن P ہے اور مشترک فرق q ہے۔ 10 والرکن ہوگا (x)
- (d) $2p+9q$ (c) $P+9q$ (b) $P+9q^2$ (a) $a + 9P$

مختصر جواب والے سوالات (ٹائپ-ا)

- کیا 144 دیے ہوئے حسابی تصاعد..... 3, 7, 11, کا رکن ہے؟ جواب کی وضاحت بھی کیجیے۔ -15
- دکھائیے $(a-b)^2$ اور a^2+b^2 میں ہیں۔ -16
- کسی AP کا پہلا رکن، مشترک فرق اور آخری رکن بالترتیب 12, 6, اور 252 ہیں۔ اس AP کے تمام ارکان کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ -17
- 8 کے پہلے 15 اضعاف کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ -18
- 1 اور 200 کے درمیان جفت اعداد کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ -19
- ایک A.P. کے تین مسلسل رکن $4m + 8$, $2m^2 + 3m + 6$, $3m^2 + 4m + 4$ ہیں۔ m کی قدر معلوم کیجیے۔ -20
- 22, 20, 18, کے کتنے ارکان لیے جائیں کہ حاصل جمع صفر ہو جائے۔ -21
- اگر ایک A.P. کے 10 دیں رکن کا 10 گناہ اس کے 20 دیں رکن کے 20 گناہ کے مساوی ہو تو AP کا 30 والرکن معلوم کیجیے۔ -22
- 6, 13, 20, 216 کا وسطی رکن معلوم کیجیے۔ -23
- دو ہندسوں کے کتنے اعداد 6 سے تقسیم ہوتے ہیں؟ -24
- (CBSE- 2011) (CBSE- 2011) اگر AP میں x ہوں تو معلوم کیجیے۔ -25
- $\frac{1}{x+2}, \frac{1}{x+3}, \frac{1}{x+5}$
- (CBSE- 2013) -6, -2, 2, , 58 AP کا وسطی رکن معلوم کیجیے۔ -26
- کسی AP کا n معلوم کیجیے جس میں $a_n = 5n - 1$ اسکے پہلے 20 رکنوں کا حاصل جمع بھی معلوم کیجیے۔ -27
- (CBSE- 2011) (CBSE- 2011C) کا کونسا رکن 79 ہوگا؟ -28
- $3 + 7 + 11 + \dots + 79$ بھی معلوم کیجیے۔

(NCERT)

۔۔۔۔۔، 253 AP -29 کے آخری رکن سے 20 والے معلوم کیجیے۔

مختصر جواب والے سوالات (Type-II)

10 اور 500 کے درمیان 7 سے تقسیم ہونے والے اعداد کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ -30

A.P. کے پانچوں اور نویں رکن کا حاصل جمع 72 ہے اور ساتویں اور بارہویں ارکان کا حاصل جمع 97 ہے۔ ایک A.P. کے معلوم کیجیے۔ -31

ایک A.P. کا m وال رکن $\frac{1}{n}$ ہے اور n وال رکن $\frac{1}{m}$ ہے۔ دکھائیے کہ اس کا $(mn)^{th}$ رکن 1 ہے۔ -32

اگر ایک AP کا m وال رکن $\frac{1}{n}$ اور n وال رکن $\frac{1}{m}$ ہے تو دکھائیے کہ mn ارکان کا حاصل جمع $(mn+1)$ ہے۔ -33

ایک A.P. کا p وال رکن q ہے اور q وال رکن p ہے۔ ثابت کیجیے کہ اس کا n وال رکن $(p+q-n)$ ہے۔ -34

101 اور 999 کے درمیان 12 اور 5 دونوں سے تقسیم ہونے والے فطري اعداد کتنے ہوں گے؟ -35

ایک AP کے 5 ویں اور 9 ویں رکن کا حاصل جمع 30 ہے۔ اگر اس کا 25 وال رکن اس کے 8 ویں رکن کا تین گناہو تو AP معلوم کیجیے۔ -36

ایک AP کے m ویں رکن کا n گناہو کے مساوی ہے اور $n \neq m$ ہے۔ دکھائیے کہ اس کا $(m+n)$ وال رکن صفر ہے۔ -37

(CBSE-2018) 3, 15, 27, 39 اس کے 21 ویں رکن سے 120 زیادہ ہوگا۔ A.P -38

(CBSE 2022) ایک AP کے پہلے n ارکان کا حاصل جمع $Sn = 3n^2 + 2n$ دیا ہوا ہے۔ AP معلوم کیجیے۔ -39

ایک AP میں پہلا رکن 12 اور مشترک فرق 6 ہے۔ اگر AP کا آخری رکن 252 ہے تو اس کا سطحی رکن معلوم کیجیے۔ -40

(CBSE 2022)

کسی A.P کا 17 وال رکن اسے کے 8 ویں رکن کے دو گنے سے 5 زیادہ ہے۔ A.P کا 11 وال رکن 43 ہے۔ n وال رکن معلوم کیجیے۔ -41

(CBSE 2020)

-42 0 اور 50 کے درمیان طاق اعدادوں کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ (NCERT)

-43 سلسلہ 20 + 19 $\frac{1}{3}$ + 18 $\frac{2}{3}$ + دوسرے جواب کی وضاحت کیجیے۔

-44 درج ذیل سلسلہ کے n ارکان کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔

طویل جواب والے سوالات

-45 ایک A.P. کے تیسرا اور ساتویں رکن کا حاصل جمع 6 اور حاصل ضرب 8 ہے۔ AP کے پہلے سولہ ارکان کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔

-46 وہ AP معلوم کیجیے جس کا چوتھا کرن 18 ہے اور 15 ویں اور نویں رکن کا فرق 30 ہے۔

-47 اگر کسی AP کے پہلے 9 ارکان کا حاصل جمع 162 ہو چھٹے اور تیرہ ہویں رکن کی نسبت 2:1 ہو تو AP کا پہلا رکن اور پندرہواں رکن معلوم کیجیے۔

-48 کسی AP کے پہلے 9 ارکان کا حاصل جمع 171 ہے۔ پہلے 24 ارکان کا حاصل جمع 996 ہے۔ AP کا پہلا رکن اور مشترک فرق معلوم کیجیے۔

-49 اگر کسی AP کے پہلے 7 ارکان کا حاصل جمع 63 اور اگلے 7 ارکان کا حاصل جمع 161 ہو تو AP کا 28 وال رکن معلوم کیجیے۔

-50 اگر کسی AP کے پہلے چار ارکان حاصل جمع 40 ہو اور پہلے چودہ ارکان کا حاصل جمع 280 ہو تو اس AP کے n ارکان کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ (CBSE-2018)

-51 ایک شخص دس سال میں ₹16500 کی بچت کرتا ہے۔ پہلے سال کے بعد ہر سال وہ پچھلے سال کے مقابلے 100₹ زیادہ کی بچت کرتا ہے۔ اس نے پہلے سال میں کتنی بچت کی؟ (CBSE-2015)

-52 کسی AP میں 50 رکن ہیں۔ پہلے 10 ارکان کا حاصل جمع 210 ہے۔ آخری 15 ارکان کا حاصل جمع 2565 ہے۔ AP معلوم کیجیے۔ (CBSE-2014)

- 53۔ کسی حسابی تصاعد (AP) کے n ارکان کا حاصل $3n + 5n^2$ ہے۔ اگر اس کا m وال رکن 168 ہو تو m کی قیمت معلوم کیجیے۔ اس AP کا 20 وال رکن بھی معلوم کیجیے۔ (CBSE-2013)
- 54۔ کسی AP کا چوتھا رکن 0 ہے۔ ثابت کیجیے اس AP کا 25 وال رکن اس کے 11 دیس رکن کا تین گناہوگا۔ (CBSE-2015)
- 55۔ کسی حسابی تصاعد (AP) میں $S_{10} = 235$ اور $S_5 + S_7 = 167$ ہے AP معلوم کیجیے۔ (CBSE-2015)
- 56۔ کسی AP میں ثابت کیجیے $S_{12} = 3(S_8 - S_4)$ جہاں $S_n = n$ ارکان حاصل جمع ہے۔ (CBSE-2015)
- 57۔ کسی AP کے چار لگاتار اعداد کا حاصل جمع 32 ہے۔ پہلے اور آخری اعداد کے حاصل ضرب اور درمیانی اعداد کے حاصل ضرب کی نسبت 7:15 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔ (CBSE-2020)
- 58۔ کسی AP کے پہلے 16 ارکان کا حاصل جمع معلوم کیجیے جس کا چوتھا اور نووال رکن باترتیب 15 اور 30 ہوں۔ (CBSE-2020)
- 59۔ ایک AP میں 37 ارکان ہیں۔ وسطی ارکان کا حاصل جمع 225 اور آخری 3 ارکان کا حاصل جمع 429 ہے۔ AP معلوم کیجیے۔

جوابات

$$a_n = 3n - 5 \quad -1$$

$$a_5 = 10$$

$$S_{10} = \frac{10}{2} [2 \times 2 + 9 \times 2] = 110 \quad -2$$

$$1, 3, 5, \dots \quad -3$$

$$a_n = 1 + (n - 1) 2 = 2n - 1$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + n \quad -4$$

$$= \frac{n(n+1)}{2}$$

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n \quad -5$$

$$= \frac{n}{2} (2+2n) = n(n+1)$$

$$an = a + (n-1) = -5(n+1) \quad -6$$

$$d = a_2 - a_1 = \frac{1}{9} \quad -7$$

$$a_1 = 3 + 7 = 10, a_2 = 6 + 7 = 13 \quad -8$$

$$d = 13 - 10 = 3$$

$$(a+7d) - (a+3d) = 4d = 20 \quad -9$$

$$a_{16} = a + 15d = -40 \quad -10$$

$$\text{Ansatz AP } 3, k-2, 5 \quad -11$$

$$K-2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

$$K = 6$$

$$P = \frac{7}{5} \quad -12$$

$$a = -3, a_2 = 4, d = 7 \quad -13$$

$$an = a + (n-1)d$$

$$a_{36} = -3 + 35 \times 7$$

$$a_{36} = 242$$

$$c \quad (i) \quad -14$$

$$b \quad (ii)$$

$$d \quad (iii)$$

$$c \quad (iv)$$

$$b \quad (v)$$

$$b \quad (iv)$$

$$c \quad (vii)$$

a (viii)

a (ix)

c (x)

$$144 = 3 + (n-1)4 \quad -15$$

$$n = \frac{141}{4} + 1$$

مکن نیں چے

$$a_1 = (a-b)^2 \quad , \quad a_2 = a^2 + b^2 \quad , \quad a_3 = (a+b)^2 \quad -16$$

$$a_2 - a_1 = a^2 + b^2 - a^2 - b^2 + 2ab = 2ab$$

$$a_3 - a_2 = (a+b)^2 - (a^2 + b^2) = 2ab$$

$$\cancel{-c} AP \quad \therefore a_2 - a_1 = a_3 - a_2$$

$$6 = d, a = 12 \quad -17$$

$$a_n = 252$$

$$\Rightarrow n = 41$$

$$S_{41} = 5412$$

$$S_{15} = \frac{15}{2} [2a + 14d] \quad -18$$

$$= \frac{15}{2} [16 + 112]$$

$$= 960$$

$$2 + 4 + 6 + \dots + 198 \quad -19$$

$$a = 2, d = 2 \quad a_n = 198 \Rightarrow n = 99$$

$$S_n = \frac{n}{2} [a + l] = 9900$$

$$b = \frac{a+c}{2} \quad -20$$

$$2m^2 + 3m + 6 = \frac{4m + 8 + 3m^2 + 4m + 4}{2}$$

$$m^2 - 2m = 0$$

$$\Rightarrow m = 0, 2$$

$$S_n = 0 \quad -21$$

$$\Rightarrow \frac{n}{2} [44 + (n-1)(-2)] = 0$$

$$n = 23$$

$$10a_{10} = 20a_{20} \quad -22$$

$$a_{10} = 2a_{20}$$

$$9 + ad = 2a + 38d$$

$$a = -29d$$

$$a_{30} = a + 29d$$

$$a_{30} = 0$$

$$6, 13, 20, \dots, 216 \quad -23$$

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$n = 31$$

$$\text{و سطی رکن} = 111$$

$$12, 18, 24, \dots, 96 \quad \text{تھیم ہونے والے 2ہندسوں کے اعداد} \quad -24$$

$$d = 6$$

$$a_n = 96$$

$$a + (n-1)d = 96$$

$$n = 15$$

$$(2b = a + c) \quad \frac{2}{x+3} = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+5} \quad -25$$

$$x = 1 \quad \text{حل کرنے پر}$$

$$a_n = a + (n-1)d \quad -26$$

$$58 = -6 + (n-1)(-4)$$

$$n = 17$$

$$\text{کسی } 9^{\text{th}} \text{ = کسی } \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\text{th}} = \text{کسی سطی رکن،}$$

$$a_9 = -6 + 8(4) = 26$$

$$a_n = 5n - 1 \quad -27$$

$$a_1 = 4, \quad a_2 = 9$$

$$d = 5$$

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d] = \frac{n}{2} [8 + (n-1)5]$$

$$= \frac{n}{2} (5n + 3)$$

$$S_{20} = \frac{20}{2} (100 + 3) = 1030$$

$$79 = 3 + (n-1)4 \quad -28$$

$$n = 20$$

$$S_{20} = \frac{20}{2} (3 + 79) = 10 (82)$$

$$= 820$$

آخری کرنے سے 15 والے کرنے -29

$$253 - 14 \times 5$$

$$= 253 - 70$$

$$= 183$$

10 اور 500 کے درمیان 7 سے تقسیم ہونے والے اعداد -30

$$14, 21, 28, \dots, 497$$

$$S_n = 17885 \quad n = 10$$

$$a_5 + a_9 = 72 \quad -31$$

$$a_7 + a_{12} = 97$$

$a = 6, d = 5$ مساو اتوں کا حل کیجیے۔

AP 6, 11, 16, 21, 26,

$$a_m = \frac{1}{n} \Rightarrow a + (m-1)d = \frac{1}{n} \quad -32$$

$$a_m = \frac{1}{m} \Rightarrow a + (n-1)d = \frac{1}{m}$$

$$(m-n)d = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} = \frac{m-n}{mn}$$

$$d = \frac{1}{mn}$$

$$a = \frac{1}{mn}$$

$$a_{nm} = a + (mn-1)d$$

$$= \frac{1}{mn} + (mn-1) \frac{1}{mn}$$

$$a_{nm} = 1$$

$$am = a + (m-1)d = \frac{1}{n} \quad (1) \quad -33$$

$$an = a + (n-1)d = \frac{1}{m} \quad (2)$$

مساویات (2) سے (1) پر کوٹھا نہیں

$$d = \frac{1}{mn}$$

$$a = \frac{1}{mn}$$

$$S_{mn} = \frac{mn}{2} [2a + (mn-1)d]$$

$$S_{mn} = \frac{1}{2} (mn+1)$$

$$a_p = q, \quad a_q = p, \quad -34$$

$$a = q + p - 1, \quad d = -1$$

$$a_n = p + q - n$$

2 سے تقسیم ہونے والے اعداد 998, 108, 106, 104, 102 -35

5 سے تقسیم ہونے والے اعداد 995, 120, 115, 110, 105

101 اور 999 کے درمیان 2 اور 5 دونوں سے تقسیم ہونے والے اعداد 90, 99, 101

$$a_n = 990$$

$$\Rightarrow n = 89$$

$$a_5 + a_9 = 30 \quad -36$$

$$\begin{aligned}a_{25} &= 3 a_8 \\d &= 2, a = 3 \quad \text{જે કર્તૃ} \\3, 5, 7, 9, \dots, AP\end{aligned}$$

$$m \times a_m = n \times a_n \quad -37$$

$$\begin{aligned}a(m-n) &= d[(m-n)-(m^2-n^2)] \\(m-n)\{a+(m+n-1)d\} &\\(m-n)a(m+n) &= 0 \\a(m+n) &= 0\end{aligned}$$

$$a_n = 120 + a_{21} \quad -38$$

$$\begin{aligned}3 + (n-1)d &= 120 + [3 + 20d] \\3 + (n-1)12 &= 120 + [3 + 20 \times 12]\end{aligned}$$

$$n = 31$$

$$\begin{aligned}S_n &= 3n^2 + 2n \quad -39 \\S_1 &= 5, S_2 = 16, S_3 = 33 \\a_n &= S_n - S(n-1) \\a &= S_1 = 5 \\a_2 &= S_2 - S_1 = 16 - 5 = 11 \\a_3 &= S_3 - S_2 = 33 - 16 = 17 \\A.P : &-5, 11, 17, \dots\end{aligned}$$

$$a = 12, d = 6, an = 252 \quad -40$$

$$an = a + (n-1)d$$

Substitute the values and find n

$$n = 41$$

$$\text{Middle term} = \frac{41+1}{2} = 21^{\text{st}} \text{ term}$$

$$a_{21} = 132$$

Middle term of A.P. is 132

$$a_{17} = 5 + 2a_8 \quad -41$$

$$a+16d = 5+2a+14d$$

$$a-2d = -5 \quad (i)$$

$$a_{11} = 43$$

$$a+10d = 43 \quad (ii)$$

$$a = 3, d = 4$$

$$a_n = 4n - 1$$

$$S_{14} = 1050, a = 10 \quad -42$$

$$\frac{14}{2} [2 \times 10 + 13d] = 1050$$

$$7[20 + 13d] = 1050$$

$$20 + 13d = 150$$

$$13d = 130$$

$$d = 10$$

$$a_{20} = a + 19d$$

$$= 10 + 19 \times 10 = 200$$

$$a = 20, d = \frac{-2}{3} \quad -43$$

$$S_n = 300$$

$$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

Substitute the values and find n

$$n = 25 \text{ or } 36$$

Sum of 26th to 36th term is 0

$$\begin{aligned}
 & (4 - \frac{1}{n}) + (4 - \frac{2}{n}) + (4 - \frac{3}{n}) + \dots \dots \quad -44 \\
 & = (4 + 4 + 4 + \dots \dots) - \frac{1}{n}(1 + 2 + 3 + \dots \dots) \\
 & = 4n - \frac{1}{n} \times \frac{n(n-1)}{2} = \frac{7n-1}{2}
 \end{aligned}$$

$$a_3 + a_7 = 6 \quad a = 1, d = \frac{1}{2} \quad S_n = 76$$

$$a_3 \times a_7 = 6 \quad a = 5, d = \frac{-1}{2} \quad S_n = 20 \quad -45$$

$$a_4 = 18 \quad -(1) \quad -46$$

$$a_{15} - a_9 = 30$$

$$d = 5$$

$$\text{کی قیمت (1) میں رکھئے پر}$$

$$a = 3$$

$$3, 8, 13, \dots \dots \text{ AP}$$

$$S_9 = 162 \quad -47$$

$$\frac{9}{2} [2a + 8d] = 162 \quad -(1)$$

$$\frac{a_6}{a_{13}} = \frac{1}{2}$$

$$a = 2d$$

$$\text{میں رکھئے (1)}$$

$$d = 3, a = 6$$

$$a_{15} - a + 14d = 48$$

$$S_9 = 171, \quad S_{24} = 996 \quad -48$$

$$a+4d = 19 \quad 2a+23d = 83$$

$$\text{حل کرنے پر}$$

$$a = 7, d = 3$$

$$S_7 = 63 \quad \text{---(1)} \quad -49$$

(2) --- $161 = S_{14} - S_7 =$ اگلے 17 کا حاصل بھیج

$$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

کو حل کرنے پر a اور d حاصل ہوتا ہے

$$a_{28} = a + 27d = 57$$

$$S_4 = 40 \Rightarrow \frac{4}{2} [2a + 3d] = 40 \quad -50$$

$$S_{14} = 280 \Rightarrow \frac{14}{2} [2a + 13d] = 280$$

حل کرنے پر

$$S_n = n^2 + 6n$$

$$\text{₹}1200.51 \quad -51$$

$$S_{10} = 210 \Rightarrow 5 [2a + 9d] = 210 \quad -52$$

$$2a + 9d = 42$$

$$S_{50} - S_{35} = 2565 \Rightarrow \frac{50}{2} [2a + 49d] - \frac{35}{2} [2a + 34d] = 2565$$

$$S_n = 5n^2 + 3n \quad -53$$

$$S_1 = a_1 = 8$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = 26$$

$$a_2 = 26 - 8 = 18$$

$$d = a_2 - a_1 = 18 - 8 = 10$$

$$a_m = 168 \Rightarrow a + (m-1)d = 168$$

$$8 + (m-1)10 = 168$$

$$m-1 = 16$$

$$m = 17$$

$$a_{20} = a + 19d = 8 + 190 = 198$$

$$a_4 = 0, \Rightarrow a + 3d = 0 \Rightarrow a = -3d \quad -54$$

$$a_{25} = a + 24d = -3d + 24d = 21d$$

$$a_{11} = a + 10d = -3d + 10d = 7d$$

$$\Rightarrow a_{25} = 3a_{11}$$

$$\text{کا استعمال کریں اور سوال نمبر 53 کی طرح حل کریں۔} \quad -55$$

$$L.H.S. = S_{12} = \frac{12}{2} [2a + 11d] = 6 [2a + 11d] \quad -56$$

$$R.H.S. = 3 \left[\frac{8}{2} (2a + 7d) - \frac{4}{2} (2a + 3d) \right]$$

$$= 3[4a + 22d] = 6[2a + 11d]$$

$$L.H.S. = R.H.S.$$

$$\text{ماتچار گاتار رکن} \quad -57$$

$$a - 3d + a - d + a + d + a + 3d = 32$$

$$a = 8$$

$$\frac{7}{15} = \frac{(a - 3d)(a + 3d)}{(a - d)(a + d)} \quad \text{سوال کے مطابق}$$

$$d = \pm 2$$

$$\text{رکھنے پر اعداد } d = 2$$

$$\text{رکھنے پر اعداد } d = -2$$

$$a_4 = -15, \quad a_9 = -30 \quad -58$$

$$a + 3d = -15 \quad (1)$$

$$a + 8d = -30 \quad (2)$$

$$\text{حل کرنے پر}$$

$$S_{16} = -456$$

$a, a_2, a_3, \dots, a_{36}, a_{37}$

-59

3 middle most terms $- a_{18}, a_{19}, a_{20}$

$$a_{18} + a_{19} + a_{20} = 225 \Rightarrow a + 18d = 75 \quad (1)$$

$$a_{35} + a_{36} + a_{37} = 429 \Rightarrow a + 35d = 143 \quad (2)$$

کھل کرنے پر (2) اور (1)

$$a = 3, d = 4$$

$$A.P \rightarrow 3, 7, 11, \dots, 147$$

مشقی سوالات

حسابی تصاعد (A.P)

وقت: 1 گھنٹہ

کل نمبر: 20

- 1 پہلے 10 فطری اعداد کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ -1
- 1 $8\frac{1}{8}, 8\frac{2}{8}, 8\frac{3}{8}, \dots, AP$ کا مشترک فرق کیا ہے؟ -2
- 1 اگر AP کے رکن ہوں t_{k} کی قدر معلوم کیجیے۔ -3
- 1 $8, 10, 12, \dots, 126$ A.P کے آخری رکن سے 10 والے رکن معلوم کیجیے۔ -4
- 2 اور 102 کے درمیان 6 سے تقسیم ہونے والے کتنے دوہنڈی اعداد ہیں؟ -5
- 2 AP کے پہلے n ارکان کا حاصل جمع $3n^2 + 3n$ ہے۔ اس کا 20 والے رکن معلوم کیجیے۔ -6
- 2 حاصل جمع معلوم کیجیے۔ $(-5) + (-8) + (-11) + \dots + (-230)$ -7
- 3 AP کے پہلے پانچ ارکان معلوم کیجیے جن کا حاصل جمع $\frac{1}{2} \times 12$ نیز پہلے اور آخری رکن کی نسبت 3:2 ہو۔ -8
- 3 20, 16, 12, ..., -176 AP کا وسطی رکن معلوم کیجیے۔ -9
- 4 ایک AP کے تین اعداد کا حاصل جمع 24 اور حاصل ضرب 440 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔ -10

باب 6

مثلث (Triangles)

اہم نکات:

مشابه مثلث: دو مثلث مشابہ ہوتے ہیں اگر ان کے نظیری زاویے برابر ہوں اور ان کے نظیری اضلاع ایک ہی تناسب میں ہوں۔ .1

مثلثوں کی مشابہت کی شرطیں: .2

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$ اور ΔABC میں

مشابہت A A A (a)

$\angle A = \angle D$ اور $\angle B = \angle E$ ، $\angle C = \angle F$ ہو تو۔

مشابہت S A S (b)

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$ اور $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ گر تو۔


مشابہت S S S (c)

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$ اور $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$ گر تو۔

دیگری شکل میں $\frac{1}{2} = \frac{PY}{YR} = \frac{PX}{XQ}$ اور $XY \parallel QR$ ہو تو۔ .2

$xy = \frac{1}{3}QR$ (b) $AX = QR$ (a)

$xy = \frac{1}{2}QR$ (d) $xy^2 = QR^2$ (c)



-3

دوں مترابہ مثلثوں کے میں متناسب بیان ہے۔ اور $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ کی وجہ سے کیا جھنپتیں ہیں۔

-4

(NCERT-Exemplar)

$$AB \cdot EF = AC \cdot DE \quad (b)$$


$$BC \cdot DE = AB \cdot DF \quad (b)$$

$$BC \cdot EF = AC \cdot FD \quad (a)$$

$$BC \cdot DE = AB \cdot EF \quad (c)$$


دی ہوئی شکل میں a, b, c اور x کی شکل میں ظاہر کیجیے۔

-5



دی ہوئی شکل میں $\Delta ABC \sim \Delta HKL$ کی وجہ سے کیا جھنپتیں ہیں۔

-6




معلوم کیجیے۔ تو $AC = 7 \text{ cm}$, $BC = 3.5 \text{ cm}$, $AK = 10 \text{ cm}$

$\angle F = \angle P$ اور $\angle D = \angle R$ کی وجہ سے $\Delta DEF \sim \Delta RPQ$


-7

اگر دو مشابہ مثلثوں کے نظیری وسطانیوں میں 5:7 کی نسبت ہے۔ ان کے نظیری اضلاع کی نسبت معلوم کیجیے۔ -8


دی گئی شکل میں اگر $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ہے تو x کی قدر معلوم کیجیے۔ -9



دی گئی شکل میں XY:QR = $\frac{PX}{XQ} = \frac{PY}{YR} = \frac{1}{2}$ اور XY || QR معلوم کیجیے۔ -10




دی گئی شکل میں x کی وہ قدر معلوم کیجیے جس سے $DE \parallel AB$ ہو جائے۔ -11



اگر $\Delta DEF \sim \Delta ABC$ اور $\angle F = 56^\circ, \angle A = 45^\circ, \angle C = ?$ ہو تو $\angle C$ معلوم کیجیے۔ -12


دو مشابہ مثلثوں کے نظیری اضلاع کی نسبت 2:3 ہے۔ اس کے نظیری ارتفاعات کی نسبت معلوم کیجیے۔ -13

دی ہوئی شکل میں اگر $\frac{BD}{AB} = \frac{CE}{AC}$ ہے تو ثابت کیجیے کہ



مختصر جواب والے سوالات (Type-I)

دی گئی شکل میں DC||AD اور DE||AC ہے۔




$$\frac{BE}{EC} = \frac{BC}{CP} \quad \text{ثابت کیجیے:}$$


$\frac{PM}{PQ} = \frac{PN}{PR}$ ہے۔ BPT کا استعمال کرتے ہوئے ثابت کیجیے کہ MN||QR میں ΔPQR میں ΔPMN کا استعمال کرتے ہوئے ثابت کیجیے کہ

دی ہوئی شکل میں D اور E مثلث ABC کے اضلاع AB اور CA پر نقاط ہیں نیز $\angle B = \angle AED$ ہے۔ دکھائی کے لئے


$$\Delta ABC \sim \Delta AED$$




دی گئی شکل میں $AB \parallel DC$ اور وتر AC اور BD نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔ اگر $OB = 2x + 1$, $OA = 3x - 1$ اور $OD = 6x - 5$ اور $OC = 5x - 3$ ہے تو x کی قدر معلوم کیجیے۔ - 18




دی گئی شکل میں ΔPQR ایک قائم زاوی مثلث ہے جس کا $\angle Q = 90^\circ$ اور $XY \parallel QR$ ہے۔ اگر $PQ = 6$ cm اور $PX:XQ = 1:2$ اور $PY = 4$ cm کی لمبائی معلوم کیجیے۔ - 19



شکل میں $CD \parallel AB$ ہے۔ CD کی لمبائی معلوم کیجیے۔ - 20




دی ہوئی شکل میں ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے۔ خط AE قطعہ خط BD کو 1:2 کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔ اگر $BE = 1.5 \text{ cm}$ تو BC کی طرف سے معلوم کیجیے۔ -21




دی گئی شکل میں $\angle CDO = 70^\circ$ اور $\angle BOC = 115^\circ$ ، $\triangle ODC \sim \triangle OBA$ ہے۔ معلوم کیجیے۔ -22


- | | | | |
|--------------|------|--------------|-------|
| $\angle DCO$ | (ii) | $\angle DOC$ | (i) |
| $\angle OBA$ | (iv) | $\angle OAB$ | (iii) |




دی ہوئی شکل میں $DC^2 = CF \times AC$ اور $BD \parallel EF \parallel AB \parallel DE$ ہے۔ ثابت کیجیے کہ $BD \parallel EF$ ۔ -23




دی ہوئی شکل میں اگر $\frac{AD}{DC} = \frac{BE}{EC}$ اور $\angle CDE = \angle CED$ ہے تو ثابت کیجیے کہ $\triangle CAD \sim \triangle CEB$ ۔ ایک مساوی الاضلاعی مثلث ہے۔ -24



دی ہوئی شکل میں $PB \times PC = PQ^2$ اور $QR \parallel CA, QS \parallel BA$ ۔ -25



دی ہوئی شکل میں $\Delta ADE \sim \Delta ABC$ اور $\angle 1 = \angle 2$ ۔ ثابت کیجیے کہ $\Delta FEC \cong \Delta GBD$ ۔ -26




مختصر جواب والے سوالات (Type-II)

$$\frac{BC^2}{AC^2} = \frac{BD}{AD} : \text{ثابت کیجیے } CD \perp AB \text{ اور } \angle ACB = 90^\circ \text{ میں } \Delta ABC \text{ } -27$$

دی گئی شکل میں $\Delta ABC \sim \Delta DBC$ اور BC ایک ہی قاعدہ BC پر واقع ہے۔ ثابت کیجیے AD ایک دوسرے کو O پر کاٹتے ہیں۔ -28

(CBSE-2020)

$$\frac{\text{area}(\Delta ABC)}{\text{area}(\Delta DBC)} = \frac{AO}{DO}$$




$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ اور $PS \parallel AD$ با ترتیب $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ کے وسطانیے ہیں جہاں PS میں وسٹانیے ہیں۔ -29

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{AD}{PS} : \text{ثابت کیجیے}$$

-30 دی گئی شکل میں $DE \parallel AC$ ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کیا صحیح ہے؟

$$x = \frac{ay}{a+b} \quad \text{یا} \quad x = \frac{a+b}{ay}$$




-31 اگر دو قاطع خطوط تین متوازی خطوط کو قطع کرتے ہیں تو ثابت کیجیے کہ قاطع خطوط پر ان کے ذریعے بنائے گئے مقطوعات متناسب ہوتے ہیں۔

-32 کسی گلی میں 6 میٹر اونچے کھبے پر ایک بلب لگایا گیا ہے۔ ایک عورت جس کی اونچائی 1.5m ہے اس کے سامنے کی لمبائی 3m ہے۔ معلوم کیجیے وہ عورت کھبے سے کتنے دوری پر ہے۔ (NCERT Exemplar)

-33 دو کھبوں کی اونچائی a میٹر اور b میٹر ہے ان کے درمیان فاصلہ p میٹر ہے۔ ثابت کیجیے کہ ایک کھبے کے اوپری سرے کو مقابل کھبے کے نچلے سرے سے ملانے والے خطوں کے قطع کے نقطہ کی اونچائی $\frac{ab}{a+b}$ میٹر ہے۔


-34 شکل میں $CD \parallel PQ \parallel AB$ ہو تو ثابت کیجیے:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$$



-35 دی گئی شکل میں $\Delta BAC \sim \Delta EDC$ ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔ ثابت کیجیے کہ $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ اور $\angle D = \angle C = \angle A = \angle B$


(CBSE-2020)



دی گئی شکل میں نقطہ O کو مثلث کے راسوں سے ملایا گیا ہے۔ - 36

نقطہ D جو AO پر واقع ہے سے $DE \parallel AB$ اور نقطہ E جو OB پر واقع ہے سے $EF \parallel BC$ کھنچی گئی


ثابت کیجیے $DF \parallel AC$




دو مثلث BAC اور BDC بالترتیب A اور D پر قائم زاوی ہیں۔ ان دونوں مثلثوں کا قاعده BC ہے وردونوں کے

ایک ہی طرف بنائے گئے ہیں۔ اگر AC اور BD نقطہ P پر قطع کرتے ہیں تو ثابت کیجیے:

$$AP \times PC = DP \times PB$$




-38 دو ہوئی شکل میں BC کا وسطی نقطہ P اور AP کا وسطی نقطہ Q ہے۔ اگر BQ کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو یہ AC کو R پر ملتا ہے۔ ثابت کیجیے کہ $RA = \frac{1}{3}CA$




طويل جواب والے سوالات

-39 دی ہوئی شکل میں DE||AC اور $\frac{BE}{EC} = \frac{BC}{CP}$ ہے۔ ثابت کیجیے کہ DC||AP



-40 ΔABC میں AD وسطانیہ ہے $AD:XD = 2:3$ اس طرح ہے کہ $AX:XD = 2:3$ ہے۔ شاعر XY کو Y پر قطع کرتی ہے۔ ثابت کیجیے کہ $BX = 4XY$




-41 متوازی الاضلاع ABC کے راس D سے ایک خط کھینچا گیا ہے جو ضلع BA اور BC کو بڑھانے پر با ترتیب E اور F پر قطع کرتا ہے۔ ثابت کیجیے کہ $\frac{DA}{AE} = \frac{FB}{BE} = \frac{FC}{CD}$

42۔ اگر مثلث کے ایک ضلع کے متوازی کوئی خط کھینچا جائے تو وہ باقی دو اضلاع کو مختلف نقطوں پر قطع کرتا ہے اور وہ دو اضلاع ایک ہی نسبت میں منقسم ہوتے ہیں۔ ثابت کیجیے۔

(CBSE-2020)

43۔ متوازی الاضلاع ABCD کے ضلع CD کے وسطی نقطہ M سے خط BM کھینچا گیا ہے جو AC کو پر قطع کرتا ہے اور E کو تک بڑھایا گیا ہے۔ ثابت کیجیے کہ $EL = 2BL$

44۔ دی ہوئی شکل میں $\frac{BD}{CD} = \frac{BF}{CE}$ اور $\angle CAE = \angle AFE$ کا وسطی نقطہ ہے۔ ثابت کیجیے کہ $\Delta ABC \sim \Delta AEF$




45۔ دی ہوئی شکل میں، ΔABC اور وسطانیہ AD، AB، AC اور وسطانیہ PR، PQ، PR بالترتیب اضلاع ΔPQR اور وسطانیہ PM کے متناسب ہیں۔ دکھائیے کہ $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

(CBSE-2020)

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ متناسب ہیں۔ دکھائیے کہ

46۔ دی ہوئی شکل میں، اگر $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ اور ان کے اضلاع کی لمبائیاں (cm میں) ان کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ تو دونوں مثلثوں کے اضلاع کی لمبائیاں معلوم کیجیے۔



47۔ دو مشابہ مثلثوں کے احاطے بالترتیب 30cm اور 20cm ہیں۔ اگر پہلے مثلث کا ایک ضلع 9cm ہے تو دوسرے مثلث کا نظیری اضلاع معلوم کیجیے۔

(CBSE-2020)

48۔ میں اگر $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ ہے تو دکھائیے کہ ΔABC کا ناصف ہے۔

جوابات

$$1 \text{ cm} \quad (\text{d}) \quad -1$$

$$xy = \frac{1}{3}QR \quad (\text{b}) \quad -2$$

$$\frac{1}{3} \times 15 \quad (\text{a}) \quad -3$$

$$BC \cdot DE = AB \cdot EF \quad (\text{c}) \quad -4$$

$$\Delta KPN \sim \Delta KLM \quad -5$$

$$\frac{x}{a} = \frac{c}{b+c}$$

$$x = \frac{ac}{b+c}$$

$$\frac{AK}{AC} = \frac{HK}{BC} \quad -6$$

$$\frac{10}{AC} = \frac{7}{3.5}$$

$$AC = 5 \text{ cm}$$

$$(\text{ظ}) \angle D = \angle R \quad -7$$

$$(\text{بـ}) \angle F = \angle P$$

$$5:7 \quad -8$$

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} \quad -9$$

$$\frac{6}{4.5} = \frac{4}{x} \Rightarrow x = 3 \text{ cm}$$

$$\Delta PXY \sim \Delta PQR$$

$$\frac{PX}{PQ} = \frac{XY}{QR} = 1 : 3 \quad -10$$

$$\frac{x+3}{3x+19} = \frac{x}{3x+4} \quad -11$$

$$x = 2$$

$$\angle F = \angle C = 56^\circ \quad -12$$

$$\frac{BD}{AB} = \frac{CE}{AC} \quad -14$$

Subtracting 1 from reciprococal

$$\frac{AB}{BD} - 1 = \frac{AC}{CE} - 1$$

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AC}{CE}$$

$$\Rightarrow DE \parallel BC$$

[ B.P.T] (1) — $\frac{AD}{DB} = \frac{EC}{BE}$ DE||AC -15

[ B.P.T] (2) — $\frac{AD}{DB} = \frac{CP}{BC}$ DC||AP

سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔


$$\frac{BE}{EC} = \frac{BC}{CP}$$

In ΔPQR -16

$MN \parallel QR$

$$\frac{MQ}{PM} = \frac{NR}{PN}$$

دونوں طرف 1 جزو نے پر



$$\frac{PQ}{PM} = \frac{PR}{2}$$

$$\frac{PM}{PQ} = \frac{PN}{PR}$$

$$\frac{PX}{XQ} = \frac{PY}{YR} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{4}{YR} \quad -19$$

$$YR = 8\text{cm}$$

$$PR = 8+4 = 12\text{cm}$$

$$QR = \sqrt{(12)^2 - (6)^2} = 6\sqrt{3}$$

$$\Delta ABC \sim \Delta EDC \text{ (مشابہت AA)} \quad -20$$

$$\frac{6}{3} = \frac{5}{CD}$$

$$CD = 2.5 \text{ cm}$$

$$\Delta BOE \sim \Delta DOA \text{ [مشابہت AA]} \quad -21$$

$$\frac{BO}{DO} = \frac{BE}{DA}$$

$$DA = 3\text{cm}$$

(متوازی الاضلاع کے مقابل اضلاع برابر ہوتے ہیں) $BC = DA = 3\text{cm}$

$$70^\circ \quad (\text{iv}) \quad 45^\circ \quad (\text{iii}) \quad 45^\circ \quad (\text{ii}) \quad 65^\circ \quad (\text{i}) \quad -22$$

$$\text{In } \Delta CAB, DE \parallel AB \quad -23$$

$$\Rightarrow \frac{DC}{AC} = \frac{CE}{BC} \quad (1)$$

$$\text{In } \Delta CDB, BC \parallel EF$$

$$\frac{CF}{DC} = \frac{CE}{BC} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \frac{DC}{AC} = \frac{CF}{DC}$$

$$DC^2 = CF \times AC$$

$$\text{In } \Delta CAB \quad -24$$

$$\frac{AD}{DC} = \frac{BE}{EC}$$

$\Rightarrow DE \parallel AB$ (Converse of B.P.T.)

$\Rightarrow \angle A = \angle D, \angle B = \angle E$

$\Rightarrow \angle A = \angle B$

ΔABC ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔

In ΔPSQ -25

$$\frac{PB}{PQ} = \frac{PR}{PS} \quad (1)$$

In ΔPSC

$$\frac{PQ}{PC} = \frac{PR}{PS} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \frac{PB}{PQ} = \frac{PQ}{PS}$$

$$\Rightarrow PB \times PC = (PQ)^2$$

$$\Rightarrow PB \times PC = 100 \text{ cm}^2$$

$EC = BD$ ($\because \Delta FEC \cong \Delta GBD$) -26

$AD = AE$ ($\because \angle 1 = \angle 2$)

$$\frac{AE}{EC} = \frac{AD}{BD}$$

$\Rightarrow DE \parallel BC \Rightarrow \Delta ADE \sim \Delta ABC$

$\Delta ABC \sim \Delta CBD$ -27


$$BC^2 = AB \cdot BD \quad (1)$$

$\Delta ABC \sim \Delta ACD$


$$AC^2 = AB \cdot AD \quad (2)$$

سے تقسیم کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے (2) (1)

$$\frac{BC^2}{AC^2} = \frac{BD}{AD}$$



DY \perp BC, AX \perp BC -28



$$\frac{\text{or}(\Delta ABC)}{\text{or}(\Delta DBC)} = \frac{\frac{1}{2} + BC \times AX}{\frac{1}{2} \times BC \times DY} = \frac{AX}{DY} \quad (1)$$

$\Delta A \times O \sim \Delta D \times O$ (مشابہت سے AA)

$$\frac{AX}{DY} = \frac{AO}{DO} \quad (2)$$

(1) اور (2) سے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{or}(\Delta ABC)}{\text{or}(\Delta DBC)} = \frac{AO}{DO}$$

$$\Delta ABC \sim \Delta PQR \quad -29$$

$$\angle B = \angle Q \quad \text{سے}$$

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{\frac{1}{2}BC}{\frac{1}{2}QR} = \frac{BD}{QS}$$

$$\text{یعنی } \Delta PQS \sim \Delta ABD$$

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BD}{QS} \quad \angle B = \angle Q$$

$$\Delta ABD \sim \Delta PQR \quad (\text{مشابہت})$$


$$(\text{C.P.S.T}) \quad \frac{AB}{PQ} = \frac{AD}{QS} \quad \text{سے}$$

$$\Delta BED \sim \Delta BCA \quad -30$$

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{a+b}$$

$$x = \frac{ay}{a+b}$$

-31



$$l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$$

Construction: Join BE

Proof: In $\triangle ABE$

$$\frac{AC}{CE} = \frac{BX}{XC} \quad (1)$$

In $\triangle BEF$

$$\frac{BX}{XE} = \frac{BD}{DF} \quad (2)$$


$$\Rightarrow \frac{AC}{CE} = \frac{BD}{DF}$$

$$\triangle ABE \sim \triangle CDE \text{ (مشابه AA)} \quad -32$$

$$\frac{AB}{CD} = \frac{BE}{DE}$$

$$\frac{6}{1.5} = \frac{3+BD}{3}$$

$$BD = 9m$$



$$EF = \frac{ab}{a+b} : \text{ثابت کرنا چاہیے} \quad -33$$

$AB \parallel EF \parallel DC$

$$\triangle EFC \sim \triangle ABC$$

$$\frac{EF}{AB} = \frac{FC}{BC} \quad (1)$$

$$\triangle BFE \sim \triangle BCD$$


$$\frac{EF}{CD} = \frac{BF}{BC} \quad (2)$$

کو جو نہ چاہیے (2) اور (1)

$$\frac{EF}{AB} + \frac{EF}{CD} = \frac{FC}{BC} + \frac{BF}{BC}$$

$$EF \left[\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right] = 1$$

$$EF = \frac{ab}{a+b}$$



Q. 33 کی طرح -34

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \quad -35$$

DE||BC سے مکوں کے B.P.T

$$(\text{تمادل اندر ونی زاویے}) \quad \angle ABC = \angle ADE$$

$$\angle ADE = \angle ACB \quad \text{لیکن}$$

$$\angle ABC = \angle ACB \quad \text{اس لئے}$$

$$AC = AB$$

ΔABC ایک مساوی الساقی مثلث ہے۔

$$(\text{سے B.P.T}) \quad \frac{OD}{DA} = \frac{OE}{EB} \quad (1) \quad \text{میں } \Delta OAB \quad -36$$

$$(\text{سے B.P.T}) \quad \frac{OE}{EB} = \frac{OF}{FC} \quad (2) \quad \text{میں } \Delta OBC$$

(1) اور (2) سے حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{OD}{DA} = \frac{OF}{FC}$$


DF||AC سے مکوں کے B.P.T

$$(\text{مشابہت سے AA}) \quad \Delta APB \sim \Delta DPC \quad -37$$

$$(\text{C.P.S.T}) \quad \frac{AP}{DP} = \frac{PB}{PC}$$

$$AP \cdot PC = DP \cdot PB$$

-38



Draw PS||BR

مثلث CBR میں

PS||BR

$$\rightarrow CS = SR \quad (1)$$

ٹھیک میں

$$AR = RS \quad (2)$$

From (1) and (2)

$$AR = \frac{1}{3} AC$$

ٹھیک میں BCA - 39


$$\frac{BE}{CE} = \frac{BC}{CP} \text{ (دیا ہے)}$$

$$\frac{BE}{EC} = \frac{BC}{CP} \text{ (دیا ہے)}$$

$$\frac{BD}{DA} = \frac{BC}{CP}$$

$\Rightarrow DC \parallel AP$ (Converse of BPT)

-40



یعنی $DZ \parallel BY$

$\Delta AXY \sim \Delta ADZ$

$$\frac{AX}{AD} = \frac{XY}{DZ}$$

$$DZ = 5 \times Y$$

$\Delta CDD \sim \Delta CBY$

$$\frac{CD}{CB} = \frac{DZ}{BY}$$

$$BX = 4 \times Y$$

$$\Delta EAD \sim \Delta EBF \quad -41$$

$$\frac{EA}{EB} = \frac{AD}{BF}$$


$$\frac{BF}{BE} = \frac{AD}{AE}$$

$$\frac{BF}{BE} = \frac{AD}{AE} = \frac{BF - AD}{BE - AE} = \frac{BF - BC}{BA}$$

$$= \frac{CF}{DC}$$

6.1 ملکہ نبیر NCERT -42

-43



$$\Delta BMC \cong \Delta EMD$$

$$BC = DE$$


$$\& AD = BC$$

$$\Rightarrow AE = 2BC$$

$$\Delta AEL \sim \Delta CBL$$

$$EL = 2BL$$

-44



لیے CM || DF

میں ACM میں

$EF \parallel CM$

$$\frac{AE}{CE} = \frac{AF}{FM}$$

$$CE = MF$$

میں BDF میں

$$\frac{BD}{CD} = \frac{BF}{MF} \Rightarrow \frac{BD}{CD} = \frac{BF}{CF}$$


-45 اور ΔABC میں ΔPQR

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR} = \frac{AD}{PM} \quad (1)$$

کو نقطہ E تک اس طرح بڑھائیے کہ

کو نقطہ L تک AD = DE اور PM

اس طرح بڑھائیے کہ PM = ML



ABEC اور PQLR متوالی الاضلاع ہیں۔

اس لیے

$$\left[\begin{array}{l} AC = BE, AB = EC \\ PR = QL, PQ = LR \end{array} \right] \quad (2)$$

مساوات (1) اور (2) سے

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BE}{QL} = \frac{2AD}{2PM} = \frac{AE}{PL}$$

$\therefore \Delta ABE \sim \Delta PQL$

$$\angle BAE = \angle QPL \quad (3)$$

اے طرح

$$\begin{aligned}\Delta AEC &\sim \Delta PRL \\ \angle CAE &= \angle RPL \quad (4) \\ \angle CAB &= \angle RPQ \quad (\text{سے } (4) \text{ اور } (3)) \\ \therefore \Delta PQR &\sim \Delta ABC\end{aligned}$$

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR}, \angle CRB = \angle RPQ$$

$$\therefore \Delta ABC \sim \Delta PQR$$

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD} \quad (\therefore \Delta ABC \sim \Delta DEF) \quad -46$$

$$\frac{2x-1}{18} = \frac{2x+2}{3x+9} = \frac{3x}{6x}$$

$$x = 5 \text{ پر } \checkmark$$

$$\begin{aligned}AB &= 9\text{cm}, BC = 12\text{cm}, AC = 15\text{cm} \\ DE &= 18\text{cm}, EF = 24\text{cm}, FD = 30\text{cm}\end{aligned}$$

$$\Delta ABC \sim \Delta DEF \quad -47$$

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = k \quad (\text{لیکن})$$

$$AB = kDE, BC = kEF, AC = kDF$$

$$AB + BC + AC = k (DE + EF + DF)$$


$$\frac{30}{20} = \frac{9}{x}$$

$$\Rightarrow x = 6\text{cm}$$

Construction: Produce BA up to L -48

Such that AL = AC

Join CL



Proof: In ΔACL

$$\angle 3 = \angle 4$$

In ΔBCL

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AL} (\because AC=AL)$$

$\Rightarrow DA \parallel CL$ (Converse of B.P.T.)

$$\Rightarrow \angle 1 = \angle 4$$

$$\angle 2 = \angle 3$$

$$\angle 1 = \angle 2$$

Hence, AD is Bisector of $\angle A$

مشقی سوالات


مثلث

وقت: 1 گھنٹہ


کل نمبر: 20

A - سیکشن

1 دی ہوئی شکل میں $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ معلوم کیجیے۔ -1



1 دی ہوئی شکل میں $PE:ER = PD:QR = 1:6$ اور $PQ = 5\sqrt{6}$ معلوم کیجیے۔ -2



$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ میں $CA = 2.5\text{cm}$ اور $BC = 2\text{cm}$ اور $AB = 3\text{cm}$ میں $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ کا احاطہ کریں۔ -3

1 اسے $\Delta PQR \sim \Delta QRP$ کا احاطہ کریں۔ -1

1 اگر دو مثلث $\Delta DEF \sim \Delta ABC$ اور $\Delta ABC \sim \Delta FDE$ میں $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{FD}$ ہے تو۔ -4


(a) $\Delta FDE \sim \Delta ABC$ (b) $\Delta BCA \sim \Delta FDE$

(c) $\Delta FDE \sim \Delta CAB$ (d) $\Delta CBA \sim \Delta FDE$


B - سیکشن -

دی ہوئی شکل میں $PC = 20\text{cm}$, $PB = 12\text{cm}$ اور $QP \parallel AC$ اور $QR \parallel BC$ اور -5

2 $AQ = BQ = 15\text{cm}$ کی تحسیب کیجیے۔




2 دی ہوئی شکل میں $BP \times PD = EP \times PC$ کے ثابت کیجیے۔ $CE \perp AB$ اور $DB \perp AC$ اور -6



2 اگر مخالف کا ایک وتر دوسرے وتر کو $3:1$ کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے تو ثابت کیجیے کہ ایک متوازی خط دوسرے کو تین گناہے۔ -7

C - سیکشن -

3 دی ہوئی شکل میں اگر $\Delta APQ \sim \Delta MCN$ ہے تو ثابت کیجیے کہ $MN \perp BC$ اور $PQ \perp AC$, $AB \perp BC$ اور -8



نقطہ E متوازی الاضلاع ABCD کے آگے بڑھاتے ہوئے پلٹ AD پر واقع ہے اور BE، CD، F کو قطع کرتا ہے۔ دکھائیے کہ $AB \times BC = AE \times CF$

سیکشن - D


بنیادی تناوبیت کا مسئلہ بیان کیجیے اور ثابت بھی کیجیے۔

4 - 10.

باب 7

مختص جیو میٹری


جیو میٹری کا وہ نظام جہاں نقطوں کی حالت کو مستوی میں ظاہر کرنے کے لیے عدی جوڑے (x, y) کا استعمال کیا جاتا ہے۔



x محور پر کسی نقطے کے خصوصیات کی شکل $(x, 0)$ ہوتی ہے۔


y محور پر کسی نقطے کے خصوصیات کی شکل $(0, y)$ ہوتی ہے۔

مبدأ کے خصوصیات $(0, 0)$ ہوتے ہیں۔



فاصلہ فارمولہ

دو نقطوں کے درمیان فاصلہ نہ پنا ←




(A) اور B کے درمیان فاصلہ)

$$\text{نقطہ } (x, y) \text{ کا مبدأ سے فاصلہ} = \sqrt{x^2 + y^2} ←$$

وسطی نقطے کے خصائص ←

$$\text{دو نقطوں } A(x_1, y_1) \text{ اور } B(x_2, y_2) \text{ کو ملانے والے خط کے وسطی نقطے کے خصائص} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$\text{ مثلث کے مرکزی ٹھیکانے کے خصائص} = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right) ←$$



مختصر ترین جواب والے سوالات

متباہل جواب والے سوالات

نقطہ P کی y-محور سے دوری 3 اکالی ہے اور یہ x محور پر یہ محور کے باہمی طرف واقع ہے۔ P کے خصائص ہیں۔ -1

- (0, -3) (d) (-3, 0) (c) (0, 3) (b) (3, 0) (a)

y محور سے نقطہ P(3, -2) کا فاصلہ ہے۔ -2

- 1 اکائی (d) $\sqrt{13}$ (c) 2 اکائی (b) 1 اکائی (a)

دو نقطوں کے مختصات (6, 0) اور (-8, 0) ہیں۔ انکو ملانے والے قطعہ خط کے وسطی نقطہ کے مختصات ہیں۔ -3

- (-4, 3) (d) (0, 0) (c) (3, -4) (b) (3, 4) (a)

اگر نقطوں P(4, 0) اور Q(0, x) کے درمیان کا فاصلہ 5 اکائی ہے تو x کی قدر ہے۔ -4

- 5 (d) 4 (c) 3 (b) 2 (a)

اس نقطے کے مختصات معلوم کیجیے جہاں خط $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 7$ ، y محور کو قطع کرتی ہے۔ -5

- (2a, 0) (d) (0, 7b) (c) (0, b) (b) (a, 0) (a)

ایک مثلث ABO جس کے راسوں کے مختصات A(0, 0) B(4, 0) C(0, -7) ہیں کارپہ ہوگا۔ -6

- 11 مرینج اکائی (b) 18 مرینج اکائی (a)

- 14 مرینج اکائی (d) 28 مرینج اکائی (c)

دو نقاط $Q\left(\frac{-2}{3}, 5\right)$ اور $P\left(\frac{-11}{3}, 5\right)$ کے درمیان فاصلہ ہے۔ -7

- 2 اکائی (d) 3 اکائی (c) 4 اکائی (b) 6 اکائی (a)

x محور پر اس کے نقطہ کے مختصات کیا ہوں گے جو نقطہ (5, 0) کا عکس ہے؟ -8

- (3, -5) (b) (3, 5) (a)

- (-3, 5) (d) (-3, -5) (c)

مثلث ABC کے راس A کے مختصات (-4, 2) ہیں۔ اور ایک نقطہ D جو BC کا وسطی نقطہ ہے اس کے مختصات (2, 5) ہیں۔ ΔABC کے مرکزی ثقل کے مختصات ہوں گے۔ -9

- (0, 2) (d) $\left(-2, \frac{7}{3}\right)$ (c) $\left(-1, \frac{7}{2}\right)$ (b) (0, 4) (a)

دو خطوط $0 = 2x + 4$ اور $0 = x - 5$ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ -10

- 7 اکائی (d) 5 اکائی (c) 1 اکائی (b) 9 اکائی (a)

- 11 - ایک مثلث جس کے راسوں کے مختصات $(0,0)$, $(2,0)$ اور $(0,2)$ ہیں۔ اس کا احاطہ ہے۔

- 14 کا کائی (a) 16 کا کائی (b) 16 کا کائی (c) 16 کا کائی (d) $(4 + 2\sqrt{2})$

- 12 - اگر $(9,a)$, $(-4,b)$ اور $(8,7)$ سے بننے والے مثلث کے مرکزی ثقل کے مختصات $(6,8)$ ہیں تو a اور b کی قدر ہے۔

$$a = 5, b = 4 \quad (b) \quad b = 5, a = 4 \quad (a)$$

$$a = 3, b = 2 \quad (d) \quad a = 5, b = 2 \quad (c)$$

- 13 - کسی دائرہ کے قطر کے سروں کے مختصات $(-3,4)$, $(-4,2)$ اور $(-3,-4)$ ہیں۔ دائرہ کے مرکز کے مختصات
(CBSE-2020 Basic)

$$(0, -1) \quad (b) \quad (2, -1) \quad (a)$$

$$\left(4, \frac{-5}{2} \right) \quad (d) \quad \left(0, \frac{-1}{2} \right) \quad (c)$$

- 14 - ناقلات $(0,0)$ اور $(a-b, a+b)$ کے درمیان فاصلہ

$$\sqrt{2a^2 + 2b^2} \quad (d) \quad 2\sqrt{a^2 + b^2} \quad (c) \quad \sqrt{2a^2 + ab} \quad (b) \quad 2\sqrt{ab} \quad (a)$$

مختصر جواب والے سوالات (Type - I)

- 15 - p کی کس قدر کے لیے نقاط $(2,1)$, $(p,-1)$ اور $(-1,3)$ ہم خط ہیں؟

- 16 - ایک متوازی الاضلاع کے تین مسلسل راس $(-1,0)$, $(1,0)$ اور $(4,3)$ ہیں۔ چوتھے راس کے مختصات معلوم کیجیے۔

- 17 - ان نقطوں کے مختصات معلوم کیجیے جو $(-3,4)$, $(-1,1)$ اور $(2,-1)$ کو ملانے والے قطعہ خط کو تین برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

- 18 - ایک دائرہ کا مرکز $(4,4)$ پر واقع ہے۔ اگر اس دائرہ کا قطر ایک سرا $(4,0)$ ہو تو قطر کے دوسرے سرے کے مختصات معلوم کیجیے۔
(CBSE-2020 Standard)

- 19 - وہ نسبت معلوم کیجیے جس میں نقطہ $P(4,m)$ ناقلوں $A(2,3)$ اور $B(6,-3)$ کو ملانے والے قطعہ خط کو تقسیم کرتا ہے۔
(CBSE-2018) m کی قدر بھی معلوم کیجیے۔

- 20 - ثابت کیجیے نقاط $(-2,3)$, $(8,3)$ اور $(6,7)$ کسی قائم زاوی مثلث کے راس ہیں۔

- (CBSE-2019) - 21 -
y-محور پر وہ نقطہ معلوم کیجیے جس کا نقطاط (2,-5) اور (2,-3) سے فاصلہ مساوی ہے۔
- وہ نسبت معلوم کیجیے جس میں y-محور نقطاط (6,-5)، A(-1,-4) اور B(3,-7) کو ملانے والے قطعہ خط تقسیم کرتا ہے۔ - 22
- اس مثلث کے مرکزی نقطہ کے خصوصیات معلوم کیجیے جس کے راس (5,-3)، (4,-7) اور (2,-10) ہیں۔ - 23
- x اور y کے درمیان تعلق بتائیے اگر نقطہ (x,y) کا نقطاط (1,7) اور (3,5) سے فاصلہ مساوی ہے۔ - 24
- وہ نسبت معلوم کیجیے جس میں x-محور نقطاط (3,-1) اور (4,5) کو ملانے والے خط تقسیم کرتا ہے۔ x-محور پر واقع اس نقطے کے خصوصیات بھی معلوم کیجیے۔ (CBSE-2019) - 25
- a کی قدر معلوم کیجیے اگر نقطاط (3,5) اور (1,7)، نقطه (0,0) سے مساوی فاصلہ پر واقع ہیں۔ - 26
- اگر نقطاط (4,3) A اور (2,3) O بکار رکھ دیا جائے تو x کی قدر معلوم کیجیے۔ - 27
- ABC کے راس ہیں۔ A(-1,5)، B(1,5)، C(-3,-1) اور ABC کے راس ہیں۔ A سے ہو کر گزرنے والے وسطانیہ کی لمبائی معلوم کیجیے۔ - 28
- نقطاط A(-5,6)، B(-4,-2) اور C(7,5) سے بننے والے مثلث کی قائم بتائیے۔ (NCERT- Exempler) - 29
- x-محور پر واقع نقطہ کے خصوصیات معلوم کیجیے جو نقطہ (7,-4) سے $\sqrt{2}$ کا کمی کے فاصلہ پر ہے، اس طرح کے کتنے نقطے ہوں گے۔ (NCERT- Exempler) - 30
- ایک خط y محور اور x محور کو نقطاط P اور Q پر قطع کرتا ہے۔ اگر PQ کے وسطی نقطے کے خصوصیات (2,-5)، (2,-1) ہوں تو P اور Q کے خصوصیات معلوم کیجیے۔ (CBSE-2017) - 31
- اگر (1,2)، (a, 0)، (b, 4)، C(4, b) اور D(-2, 1) کی متوازی الاضلاع ABCD کے راسوں کے خصوصیات ہوں تو a اور b کی قدریں معلوم کیجیے۔ متوازی الاضلاع کے ضلعوں کی لمبائیاں بھی معلوم کیجیے۔ (CBSE-2018) - 32
- اگر نقطاط P اور Q (2,-7)، (2,-4) اور B (-2,2) کو ملانے والے قطعہ خط کو تین مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ P-Q سے قریب ہے تو P اور Q کے خصوصیات معلوم کیجیے۔ - 33

مختصر جواب والے سوالات (Type-II)

- 34- اگر نقاط $(1,2), A(2,-8)$ و $B(5,-8)$ کو ملانے والے قطعہ خط کو نقطہ P اور Q تین مساوی حصوں میں اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ نقطہ P ، A کے نزدیک ہے۔ اگر P ایک خط $2x - y + k = 0$ پر بھی واقع ہو تو k کی قدر معلوم کیجیے۔
- 35- وہ نسبت معلوم کیجیے جس میں خط $0 = 3y - 3x - 5$ اور $(6,3)$ کو ملانے والے قطعہ خط کو تقسیم کرتا ہے۔ قطعہ نقطہ کے مختصات بھی معلوم کیجیے۔
- 36- وہ نسبت معلوم کیجیے جس میں خط $0 = 14 - 3y + x + 3y$ اور $(-2,4)$ اور $(1,7)$ کو ملانے والے قطعہ خط کو تقسیم کرتا ہے۔
- 37- اور $(2,1)$ اور $(-9,2)$ سے ہو کر گزرنے والے دائرہ کا مرکز معلوم کیجیے۔
- 38- نقطہ P ، نقطہ $A(2,1)$ اور $B(-8,5)$ کو ملانے قطعہ خط کو اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{3}$ ہے۔ اگر P خط پر واقع ہو تو k کی قدر معلوم کیجیے۔
- 39- اگر نقطہ $P(x,y)$ کا نقطہ $(5,1)$ اور $A(5,1)$ اور $B(-1,5)$ سے فاصلہ مساوی ہے تو ثابت کیجیے۔
(CBSE-2017)
- 40- وہ نسبت معلوم کیجیے جس میں نقطہ $Q(3,7)$ اور $P(-2,2)$ کو ملانے والے قطعہ خط کو تقسیم کرتا ہے۔
(CBSE-2017)
- 41- اگر $C(1,4)$ ، $A(-3,2)$ اور $B(x,y)$ ایک مساوی الساقین مثلث کے راس ہیں اور $AB = BC$ ہے تو $(2x+y)$ کی قدر معلوم کیجیے۔
- 42- اگر نقطہ $P(3,4)$ کا نقطہ $A(a+b, b-a)$ اور $B(a-b, a+b)$ سے مساوی دوری پر ہے تو ثابت کیجیے کہ $0 = 3b - 4a$

طويل جواب والے سوالات

- 43- اگر مثلث کے اضلاع کے وسطی ناقاط کے مختصات $(3,1)$ ، $(5,6)$ اور $(-3,2)$ ہیں تو اس کے راس اور مرکز نقل کے مختصات معلوم کیجیے۔
- 44- اگر نقطہ $P(x,y)$ کو ملانے والے قطعہ خط پر واقع ہو تو ثابت کیجیے۔
- 45- اس نقطہ کے مختصات معلوم کیجیے جو نقطہ $(2,6)$ اور $A(10,-10)$ کو ملانے والے خط کو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

-46 اور y کے درمیان تعلق معلوم کجیے اگر $A(2,1)$ ، $B(3,2)$ ، $C(x,y)$ ایک مساوی الساقین مثلث ہو جس میں x اور y کا کامبینیشن ہے۔
 $AB=AC$

-47 ثابت کجیے کہ نقطہ $(x, \sqrt{1-x^2})$ کا مبدأ سے فاصلہ 1 اکائی ہے۔

-48 ثابت کجیے کہ نقاط $(1,2)$ ، $(9,3)$ اور $(17,4)$ ہم خط ہیں۔

-49 وہ نسبت معلوم کجیے جس میں خط $0 = 3x + y - 9$ اور $(1,3)$ کو ملانے والے قطعہ خط تقسیم کرتا ہے۔

-50 مثلث PQR میں P اور R کے خصوصیات بالترتیب $(3,2)$ ، $(6,4)$ اور $(9,3)$ ہیں۔ مرکزی ثقل G کے خصوصیات معلوم کجیے۔
 ΔPRG کا رقبہ بھی معلوم کجیے۔

-51 اگر متوازی الاضلاع کے دو تصلی راسوں کے خصوصیات $(3,2)$ اور $(0,1)$ ہیں اور وتر ایک دوسرے کی $(-2,5)$ پر تقسیف کرتے ہیں تو دوسرے راسوں کے خصوصیات معلوم کجیے۔

جوابات اور اشارے

(-3,0) (c) -1

1 اکائی (a) -2

(3, -4) (b) -3

3 (b) -4

(0, 7b) (c) -5

14 مربع اکائی (d) -6

3 اکائی (c) -7

(-3,-5) (iii) -8

(0,4) (a) -9

7 اکائی (d) -10

1 اکائی $(4 + 2\sqrt{2})$ (d) -11


$$b = 2, a = 20 \quad (d) \quad -12$$

$$(c) \quad -13$$

$$(d) \quad -14$$

$$(1,2) \quad -15$$

18 مربع اکائی \rightarrow -16



$$AP:PB = 1:2$$

$$AQ:QB = 2:1$$

$$Q\left(\frac{-5}{3}, 2\right), P\left(\frac{-1}{3}, 0\right) \quad (4,8) \quad -18$$

$$m = 0, 1:1 \quad -19$$

فیٹا نورث مسئلہ اور فاصلہ فارمولہ استعمال کر کے \rightarrow -20

$$(0,-2) \quad -21$$

$$5:1 \quad -22$$

$$(2,-1) \quad -23$$

$$x-y = 2 \quad -24$$

$$\left(\frac{17}{8}, 0\right) \quad 3:5 \quad -25$$

$$a = 2 \quad -26$$

$$x = 2 \quad -27$$

$$\text{Median } \sqrt{37} \text{ unit} \quad -28$$

فاصلہ فارمولہ کا استعمال کر کے مختلف الاضلاع مثلث \rightarrow -29

$$x = 1, x = -15 \quad -30$$

دونوں نقطہ ہوں گے

$$(4,-10) \quad -31$$

$$a = 1, b = 1 \quad -32$$

$$AB = CD = \sqrt{10}$$

$$AD = BC = \sqrt{10}$$

$$(-4,2) , (-1,0) P -33$$

$$P(3,-2) -34$$

$k = -8$ مساوات میں رکھنے پر $y = -2$, $x = 3$

میں $m:n$ نظر ہے اور نسبت ہے $P(x,y)$ -35

$$(1) \quad y = \frac{3n - 5m}{m + n}, \quad x = \frac{6n - 2m}{m + n}$$

$$x = 3y \Rightarrow \frac{x}{y} = 3$$
 خط کی مساوات سے

مساوات (1) میں رکھنے پر

$$m : n = 3 : 13$$

$$\left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2} \right) = P(x,y)$$

$$1:2 -36$$

$$\text{Centre } (2, -4) -37$$

$$K = \frac{-17}{4} -38$$

میں فاصلہ فارمولہ کا استعمال کیجیے۔ $PA = PB$ -39

$$2:9 -40$$

$$2x+y=1 -41$$

$$3a-4b=0 \quad \text{فاصلہ فارمولہ کا استعمال کر کے} -42$$

$$A(-1,7), B(-5,-3), C(11,5) -43$$

$$\text{Co-ordinate of centred } \left(\frac{5}{3}, 3 \right)$$

$$34 = \text{مرنج کا کی} =$$

نسبت فارمولائی مدد سے حل کیجیے۔ -44

(4,2), (6,-2) & (8,-6) -45

مطلوبہ رشتہ $y = 2x + 2$ -46

مطلوبہ نسبت 3:4 -49

$G(x,y) = (6,3)$ -50

$$\text{مربع اکائی } \frac{3}{2} = \Delta \text{ PQG}$$

$$\text{مربع اکائی } \frac{3}{3} = \Delta \text{ PRG}$$

Other vertices (-5,10) & (-7,8) -51

مشقی سوالات

مختصر جیو میٹری

کل نمبر: 20

وقت: 1 گھنٹہ

- 1 -
x-محور (5,6) اور A(2,-3) B کو ملانے والے قطعہ خط کو مندرجہ ذیل میں سے کس نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔
- 2:1 (iv) 1:2 (iii) 3:5 (ii) 2:3 (i)
- 1 -
نقطہ $P(6,8)$ کا مبدأ سے فاصلہ ہے۔
- 1 -
اگر نقطہ $(3,a)$ قطعہ خط $2x-3y=5$ پر واقع ہو تو a کی قدر معلوم کیجیے۔
- 2 -
y-محور پر وہ نقطہ معلوم کیجیے جو $(-5,-2)$ اور $(3,2)$ سے مساوی فاصلہ پر ہے۔
- 2 -
اگر نقاط $A(8,6)$ اور $B(x,10)$ کسی دائرہ پر واقع ہوں جس کا مرکز $C(4,6)$ ہو تو x کی قدر معلوم کیجیے۔
- 2 -
 مثلث کا احاطہ معلوم کیجیے جس کے راسوں کے مختصات $(0,0)$, $(0,4)$ اور $(3,0)$ ہیں۔
- 3 -
دکھائیے کہ نقاط $D(4,4)$, $C(2,-3)$, $B(-5,-5)$, $A(-3,2)$ اور y -محور کے راس ہیں۔
- 3 -
وہ نسبت معلوم کیجیے جس میں نقطہ $(2,y)$ (نقطہ $(2,2)$ اور $(3,7)$) A اور B کو ملانے والے قطعہ خط کو اس طرح تقسیم کرتا ہے۔
- 4 -
اگر نقطہ P نقطوں $(-2,-4)$ اور $(2,-2)$ A اور B کو ملانے والے قطعہ خط کو اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ $\frac{AP}{AB} = \frac{3}{7}$ ہے تو P کے مختصات معلوم کیجیے۔


باب 8

ٹرگنومیٹری کا تعارف


ریاضی کی وہ شاخ جو قائم زاوی مثلاں سے متعلق جانکاری دیتی ہے۔ ٹرگنومیٹری خاص طور پر قائم زاوی مثلاں کے اضلاع اور زاویوں کے درمیان تعلق سمجھاتی ہے۔

نوت: $\angle A$ کے لئے BC عمود اور AB قاعده ہے۔

$\angle C$ کے لیے AB عمود اور BC قاعده ہے۔



ٹرگنومیٹری نسبتیں: کسی قائم زاوی مثلاً میں ایک زاویہ حادہ کے لیے ٹرگنومیٹری نسبتیں مثلاً کے زاویے اور اس کے اضلاع کی لمبائیوں کے درمیان تعلق ظاہر کرتے ہیں۔



Mind Trick (یاد رکھنے کا طریقہ) Tangent، Sine، Cosine کا مثلث کے اضلاع سے تعلق یاد کرنے کے لیے مندرجہ جملے کو یاد کر لیں۔

Some People Have Curly Brown Hair Through Proper Brushing

$$\sin A = \frac{P}{H} \quad \cos A = \frac{B}{H} \quad \tan A = \frac{P}{B}$$

اہم نکات:

-1 ٹرگنومیٹری نسبتیں: مثلث ABC میں، $\angle B = 90^\circ$ ، زاویہ A کے لیے:

$$\sin A = \frac{\text{بال مقابل ضلع}}{\text{وتر}} = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}$$

$$\cos A = \frac{\text{متصل ضلع}}{\text{وتر}} = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$$

$$\tan A = \frac{\text{بال مقابل ضلع}}{\text{متصل ضلع}} = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$$

$$\cot A = \frac{\text{متصل ضلع}}{\text{بال مقابل ضلع}} = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$$

$$\sec A = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}} = \frac{\text{وتر}}{\text{متصل ضلع}}$$

$$\cosec A = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}} = \frac{\text{وتر}}{\text{بال مقابل ضلع}}$$

-2 مقلوب تعلق:

$$\sin \theta = \frac{1}{\cosec \theta}, \quad \cosec \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}, \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

نسبتی تعلق

-3

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} , \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

تماثلات:

-4

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta \text{، } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

$$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \text{، } 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \Rightarrow \tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$$

$$\cosec^2 \theta - \cot^2 \theta = 1 \text{، } 1 + \cot^2 \theta = \cosec^2 \theta \Rightarrow \cot^2 \theta = \cosec^2 \theta - 1$$

کچھ مخصوص زاویوں کی مذکونہ میرک نسبتیں:

.5

$\angle A$	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin A$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos A$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan A$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	معرف نہیں
$\cosec A$	معرف نہیں	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
$\sec A$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	معرف نہیں
$\cot A$	معرف نہیں	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

مختصر ترین جواب والے سوالات

ہدایت: مندرجہ ذیل سوالات میں $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ کی قدر معلوم کیجیے۔

$$\sin \theta = \cos \theta \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad -1$$

$$\tan^4 \theta + \cot^4 \theta \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad -2$$

اگر $\tan\theta + \cot\theta$ کی قدر معلوم کیجیے، - 3

$$\tan^2\theta - 3\tan\theta + 1 = 0$$

$$\text{اگر } \frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - \cos\theta} \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 4$$

$$\text{اگر } \frac{3(x^2 - 1)}{x^2} = \cot\theta \text{ اور } 3x = \operatorname{cosec}\theta \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 5$$

$$\text{اگر } x^2 + y^2 = a^2 \text{ اور } y = a\cos\theta \text{ اور } x = a\sin\theta \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 6$$

$$\text{اگر } 4 + 4\tan^2A = \cos A \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 7$$

$$9\sec^2A - 9\tan^2A \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 8$$

$$\text{اگر } \cot\theta \text{ کو شکل میں ظاہر کیجیے۔} \quad - 9$$

$$\text{اگر } y = b\tan\theta, x = a\sec\theta \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 10$$

$$\text{اگر } \frac{1 + \tan^2\theta}{1 + \cot^2\theta} = \tan\theta \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 11$$

$$\frac{1 + \tan^2\theta}{1 + \cot^2\theta} \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 12$$

$$(CBSE-2010) \quad \text{اگر } \frac{\operatorname{cosec}^2\theta - \operatorname{sec}^2\theta}{\operatorname{cosec}^2\theta + \operatorname{sec}^2\theta}, \tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ دیا ہے،} \quad - 13$$

$$\text{اگر } \tan^2\theta + \cot^2\theta = \sqrt{3} \cot^2\theta - 4\cot\theta + \sqrt{3} = 0 \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 14$$

$$\text{اگر } \frac{5\sin\theta - 4\cos\theta}{5\sin\theta + 4\cos\theta} = 5\tan\theta - 4 = 0 \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 15$$

$$3\tan^2\theta - 3\sec^2\theta + 4 \text{ کی قدر ہے:} \quad - 16$$

$$0 \quad (\text{iv}) \quad 1 \quad (\text{iii}) \quad 2 \quad (\text{ii}) \quad 3 \quad (\text{i})$$

$$\text{شکل میں اگر } CB = 12\text{cm اور } BD = 3\text{cm, AD} = 4\text{cm} \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 17$$

$$\frac{12}{13} \quad (\text{d}) \quad \frac{13}{12} \quad (\text{c}) \quad \frac{5}{12} \quad (\text{b}) \quad \frac{12}{5} \quad (\text{a})$$

$$x^2 + y^2 = 9 \text{ کی قدر ہے} \quad y = 3\cos\theta - 4\sin\theta \text{ اور } x = 3\sin\theta + 4\cos\theta \quad -18$$

49 (iv) 7 (iii) 45 (ii) 25 (i)

$$\sec\theta + \tan\theta \text{ کی قدر ہے تو } \sin\theta = \frac{a}{b} \quad -19$$

$$\frac{a+b}{a-b} \quad (\text{ii}) \quad \sqrt{\frac{a+5}{a-b}} \quad (\text{i})$$

$$\frac{b+a}{b-a} \quad (\text{iv}) \quad \sqrt{\frac{b+a}{b-a}} \quad (\text{iii})$$

مختصر جواب والے سوالات (تائپ-I)

ثابت بھیے:

$$\sec^4\theta - \sec^2\theta = \tan^4\theta + \tan^2\theta \quad -20$$

$$\sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}} = \tan\theta + \sec\theta \quad -21$$

$$x^2 - y^2 = p^2 - q^2 \text{ ہو تو ثابت کیجیے: } y = p \tan\theta + q \sec\theta \text{ اور } x = p \sec\theta + q \tan\theta \quad -22$$

$$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ تو دکھایے کہ } 7\sin^2\theta + 3\cos^2\theta = 4 \quad -23$$

$$\cos\theta + \tan\theta = 5 \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad -24$$

$$\frac{\cos ec^2 A + 1}{\cos ec^2 A - 1} \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad -25$$

$$\tan^3\theta + \cot^3\theta = \tan\theta + \cot\theta = 0 \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad -26$$

$$\tan\theta + \sin\theta = \cos\theta = \sqrt{2} \cos\theta \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad -27$$

$$\angle ACB = 30^\circ \text{ اور } AB = 5\text{cm} \text{ اور } \angle B = 90^\circ \text{ میں } \Delta ABC \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad -28$$

(CBSE-2011)

دکھائیے کہ $\frac{1-\sin 60^\circ}{\cos 60^\circ} = 2 - \sqrt{3}$ - 29

(CBSE-2014) $\frac{\cos \theta}{1-\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} = 4 \text{ اگر } \theta \leq 90^\circ \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔}$ - 30

مختصر جواب والے سوالات (ٹائپ-II)

ثابت کیجیے:

$$\frac{1}{\sec x - \tan x} - \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} - \frac{1}{\sec x + \tan x} \quad - 31$$

(CBSE 2019, 2023) $\frac{\tan \theta}{1 - \cot \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \tan \theta} = 1 + \tan \theta + \cot \theta = \sec \theta \cos ec \theta + 1 \quad - 32$

(CBSE 2023) $\sec A(1 - \sin A)(\sec A + \tan A) = 1 \quad - 33$

$$\sec \theta + \tan \theta = 2x \text{ or } \frac{1}{2x} \text{ ہوتا بث کیجیے کہ } \sec \theta = x + \frac{1}{4x} \quad - 34$$

$$\cos^2 \theta + \cos^4 \theta = 1 \text{ ہوتا بث کیجیے کہ } \sin \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad - 35$$

$$\cos \theta = \frac{P^2 - 1}{?} \text{ ہے تو بث کیجیے کہ } P = \cosec \theta + \cot \theta \quad - 35$$

دکھائیے کہ $x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \quad - 37$

$$Z = r \sin \alpha \text{ اور } y = r \cos \alpha \cos \beta \text{ اور } x = r \cos \alpha \sin \beta \quad - 38$$

ثابت کیجیے کہ:

$$2\sec^2 x - \sec^4 x - 2\cosec^2 x + \cosec^4 x = \cot^4 x - \tan^4 x \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 39$$

$$\cosec \theta - \cot \theta = \frac{1}{3} \text{ ہے تو cosec } \theta - \cot \theta = \frac{1}{3} \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔} \quad - 40$$

$$\text{Cos}\theta + \text{Sin}\theta = \sqrt{2} \text{ Cos}\theta \quad - 41$$

(CBSE-2015) $\text{Cos}\theta - \text{Sin}\theta = \sqrt{2} \text{ Sin}\theta$

قدر معلوم کیجیے - 42

(CBSE-2012)

$$\frac{\tan^2 60^\circ + 4\cos^2 45^\circ + 3\sec^2 30^\circ + 5\cos^2 90^\circ}{\cosec 30^\circ + \sec 60^\circ - \cot^2 30^\circ}$$

(CBSE-2001 C)

$$a \sin \theta - b \cos \theta = n \quad \text{اور} \quad a \cos \theta + b \sin \theta = m \sqrt{1}$$

ثابت کیجیے کہ $a^2 + b^2 = m^2 + n^2$

طویل جواب والے سوالات

$$\left(1 + \frac{1}{\tan^2 \theta}\right) \left(1 + \frac{1}{\cot^2 \theta}\right) = \frac{1}{\sin^2 \theta - \sin^4 \theta} \quad 44$$

$$2(\sin^6 \theta + \cos^6 \theta) - 3(\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) + 1 = 0 \quad 45$$

$$(1 + \cot A + \tan A)(\sin A - \cos A) = \sin A \tan A - \cot A \cos A \quad 46$$

$$\text{ثابت کیجیے کہ } \sec \theta + \cosec \theta = n \sin \theta + \cos \theta = m \sqrt{1} \quad 47$$

$$n(m^2 - 1) = 2m$$

$$\sqrt{\frac{\sec \theta - 1}{\sec \theta + 1}} + \sqrt{\frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}} = 2 \cosec \theta \quad 48$$

ثابت کیجیے:

$$\frac{1}{\cosec \theta + \cot \theta} - \frac{1}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\cosec \theta - \cot \theta}$$

$$\text{ثابت کیجیے کہ } \frac{\cos \alpha}{\sin \beta} = n \quad \text{اور} \quad \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} = m \sqrt{1} \quad 50$$

$$(m^2 + n^2) \cos^2 \beta = n^2$$

$$\sec^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta - 2 \sin^4 \theta}{2 \cos^4 \theta - \cos^2 \theta} \quad \text{ثابت کیجیے:} \quad 51$$

$$\text{ثابت کیجیے کہ } \sin^6 \theta + \cos^6 \theta = 1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \quad 52$$

$$\frac{\cot \theta + \cosec \theta - 1}{\cot \theta - \cosec \theta + 1} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} \quad \text{ثابت کیجیے کہ:} \quad 53$$

(CBSE-2020) $\tan \theta + \cot \theta = 1$ ہو تو ٹابت کیجیے $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{3}$ گری - 54

(CBSE-2020) $\frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \sec^2 A + \tan^2 A - 2 \sec A \tan A$ ٹابت کیجیے - 55

(CBSE-2020 Basic) $\frac{\sin \theta - 2 \sin^3 \theta}{2 \cos^3 \theta - \cos \theta} = \tan \theta$ ٹابت کیجیے - 56

$m^2 - n^2 = 4\sqrt{mn}$ اور $A > B$ اور $O < A+B < 90^\circ$ کی قدر معلوم کیجیے۔ $\cos(A+B) = \sin(A-B) = \frac{1}{2}$ گری - 57

$m^2 - n^2 = 4\sqrt{mn}$ ہو تو ٹابت کیجیے $\tan \theta - \sin \theta = n$ ، $\tan \theta + \sin \theta = m$ گری - 58

(CBSE-2020 Standard)

ٹابت کیجیے کہ $l^2 m^2 (l^2 + m^2 + 3) = 1$: گری - 59

$m = \sec x - \operatorname{cosec} x$ اور $l = \operatorname{cosec} x - \sin x$ گری

(CBSE-2020) $\frac{1 + \sec \theta - \tan \theta}{1 + \sec \theta + \tan \theta} = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}$ ٹابت کیجیے - 60

$\frac{(1 + \sin x - \cos x)^2}{(1 + \sin x + \cos x)^2} = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$ ٹابت کیجیے کہ - 61

(CBSE-2019) $\frac{\sin \theta}{\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta} = 2 + \frac{\sin \theta}{\cot \theta - \operatorname{cosec} \theta}$ ٹابت کیجیے - 62

4 ہو تو قدر معلوم کیجیے۔ $4\tan \theta = 3$ گری - 63

(CBSE-2018) $\frac{4 \sin \theta - \cos \theta + 1}{4 \sin \theta + \cos \theta} = 11$

$\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} = \sec \theta + \tan \theta$ ٹابت کیجیے کہ - 64

$\frac{1}{1 + \sin^2 \theta} + \frac{1}{1 + \cos^2 \theta} + \frac{1}{1 + \sec^2 \theta} + \frac{1}{1 + \operatorname{cosec}^2 \theta} = 2$ ٹابت کیجیے کہ - 65

$\frac{\tan^3 \theta}{1 + \tan^2 \theta} + \frac{\cot^3 \theta}{1 + \cot^2 \theta} = \sec \theta \operatorname{cosec} \theta - 2 \sin \theta \cos \theta$ ٹابت کیجیے کہ - 66

ہے تو ثابت کیجیے کہ $\cosec \theta = 4x + \frac{1}{16x}$ ۔ 67

$$\cosec \theta + \cot \theta = 8x \text{ or } \frac{1}{8x}$$

جوابات اور اشارے

2	.2	45°	.1
7	.4	3	.3
a^2	.6	$\frac{1}{3}$.5
$a^2 b^2$.8	$\frac{100}{9}$.7
0°	.10	$\frac{\sqrt{1+\cot^2 \theta}}{\cot \theta}$.9
$\tan^2 \theta$.12	$\frac{16}{9}$.11
$\frac{10}{3}$.14	$\frac{1}{2}$.13
-1	(iii)	.16	c .15
a	.18	a .17	
x اور y کے مربع کر کے لکھا یہ	.22	$\sqrt{\frac{b+a}{b-a}}$	(iii) .19
$\cos \theta = \frac{5}{13}$.24	دوسرا طرف کو $\cos^2 \theta$ سے تقسیم کر کے حل کیجیے	.23
2	.26	$\frac{17}{8}$.25
		$\sqrt{2} - 1$.27

$$60^\circ \quad .31 \quad BC = 5\sqrt{3} \text{ cm}, AC = 10 \text{ cm} \quad .28$$

$$-1 \quad .41 \quad \sqrt{3} \quad .39$$

$$\cosec \theta = \frac{5}{3} \quad .40 \quad 2 \quad .42$$

$$9 \quad .42 \quad \cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \cos \theta \quad .41$$

مرجع کرنے پر

$$1+2\sin \theta \cos \theta = 2\cos^2 \theta \\ \Rightarrow 2\sin \theta \cos \theta = 2\cos^2 \theta - 1 \quad (i)$$

$$(\cos \theta - \sin \theta)^2 = 1 - 2 \cos \theta \sin \theta$$

مساوات (i) کا استعمال کریے

$$0 \quad .51 \quad \text{اور } n^2 \text{ m}^2 \text{ معلوم کر کے انہیں جمع کیجیے۔} \quad .43$$

$$\text{اور } n^2 \text{ m}^2 \text{ معلوم کر کے LHS میں رکھیے۔} \quad .50$$

$$.55 \quad \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{3} \quad .54$$

مرجع کر کے $\sin \theta \cos \theta$ کی قیمت معلوم کیجئے اور $\tan \theta + \cot \theta$ میں تبدیل کیجیے۔

$$LHS = \frac{\sin \theta (1 - 2 \sin^2 \theta)}{\cos \theta (2 \cos^2 \theta - 1)} \quad .56$$

رکھ کر حل کیجیے

$$\cos(A+B) = \frac{1}{2} = \cos 60^\circ \quad .57$$

$$\Rightarrow A+B = 60^\circ \quad (1)$$

$$\sin(A-B) = \frac{1}{2} = \sin 30^\circ$$

$$A-B = 30^\circ \quad (2)$$

حل کرنے پر

اور n^2 کی قدر معلوم کر کے LHS میں رکھیے .58

اور n کی قدر RHS میں رکھیے

اور $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ کو $\sin\theta$ اور $\cos\theta$ میں تبدیل کیجیے۔ اور $\cot\theta$ کا استعمال کیجیے۔ .62

شمارکنندہ اور نسب نما کو $\sec\theta = \sqrt{1 + \tan^2\theta}$ سے تقسیم کیجیے۔ .63

(جواب) $\frac{13}{11}$

کی طرح Q. 53 .64

مشقی سوالات

ٹرگنومیٹری کا تعارف

وقت: 1 گھنٹہ

کل نمبر: 20

1 $\cos \theta \text{ اور } \sin \theta$ کی قدر معلوم کیجیے۔ $\text{اگر } \frac{4}{5}$ -1

1 $\tan^4 \theta + \cot^4 \theta$ کی قدر معلوم کیجیے۔ $\text{اگر } \tan \theta + \cot \theta = 5$ -2

1 $5(x^2 - \frac{1}{x^2})$ کی قدر معلوم کیجیے۔ $\text{اگر } 5x = \sec \theta$ اور $\frac{5}{x} = \tan \theta$ -3

1 $(\cos^2 A + \cos^4 A)$ کی قدر $\sin A + \sin^2 A = 1$ کے لئے اگر -4

3 (d) 2 (c) $\frac{1}{2}$ (b) 1 (a)

2 $\frac{5 \sin \theta - 3 \cos \theta}{5 \sin \theta + 2 \cos \theta}$ کی قدر معلوم کیجیے۔ $\text{اگر } 5 \tan \theta = 4$ -5

2 $5 \sin \theta - 3 \cos \theta$ کی قدر معلوم کیجیے۔ $\text{اگر } 3 \sin \theta + 5 \cos \theta = 5$ -6

2 $(\sin \alpha + \cos \alpha)(\tan \alpha + \cot \alpha) = \sec \alpha + \operatorname{cosec} \alpha$ ثابت کیجیے: -7

3 $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 2 \cos ec \theta$ ثابت کیجیے: -8

3 $\frac{\cos A}{1 - \tan A} - \frac{\sin^2 A}{\cos A - \sin A} = \sin A + \cos A$ ثابت کیجیے: -9

4 $\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$ ثابت کیجیے: -10

باب 9

ٹریگونومیٹری کے استعمال

(Applications of Trigonometry)


-1۔ ٹریگونومیٹری کے استعمال سے چیزوں کی اونچائی اور ان کے درمیان کا فاصلہ بغیر ناپے نکالا جاتا ہے۔

-2۔ زاویہ ارتقائ (Angle of Elevation)

مانا AB ایک شے ہے جو مستوی CB پر عمودی کھڑی ہے۔

C پر مشاہد ہے جو A کی طرف دیکھ رہا ہے۔ (AB کے اوپر سر کے کو)


AC کو خط بصیرت کہتے ہیں اور $\angle ABC$ زاویہ ارتقائ ہے۔



-3۔ جھکاؤ کا زاویہ (Angle of depression)

مانا A مشاہد ہے جو C (شے) کی طرف دیکھ رہا ہے۔

AC خط بصیرت ہے۔ $\angle BAC$ جھکاؤ کا زاویہ ہے۔



-4 اگر مشاہد اور شے کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے (مشاہد شے کی طرف چلتا ہے) تو زاویہ ارتفاع بڑھتا ہے۔ اور اگر مشاہد شے سے دور جاتا ہے۔ تو زاویہ ارتفاع کم ہوتا ہے۔

-5 عددی طور پر زاویہ ارتفاع اور جھکاؤ کا زاویہ برابر ہوتے ہیں (دونوں کی پیمائش ایک ہی افقی سطح کے متوازی ہوتی ہے)

مختصر ترین جواب والے سوالات

-1 زمین پر ایک مینار کی پرچھائی کی لمبائی اس کی اونچائی کی $\sqrt{3}$ گناہے۔ سورج کا زاویہ ارتفاع (CBSE-2012)

90° (d) 60° (c) 30° (b) 45° (a)

-2 16m اور 10m اونچائی والے دو ٹکبیوں کے اوپری سروں کو 1 میٹر لمبائی والے تار سے باندھا گیا ہے۔ اگر تار افقی خط کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتا ہے۔ تو

10m (d) 12m (c) 16m (b) 26m (a)

-3 (CBSE-2017) 6m اونچے کھبے کی زمین پر پرچھائی کی لمبائی $2\sqrt{3} m$ ہے۔ سورج کا زاویہ ارتفاع

90° (d) 45° (c) 60° (b) 30° (a)

-4 ایک سیڑھی کو دیوار کے ساتھ اس طرح لگایا جاتا ہے کہ وہ افقی سطح کے ساتھ 60° کا زاویہ بناتی ہے۔

-5 (CBSE-2016) اگر سیڑھی کا نچلا سر ادیوار سے 2.5 میٹر کی دوری پر ہو تو سیڑھی کی لمبائی

6m (d) 5m (c) 4m (b) 3m (a)

-6 (CBSE-2017) ایک 30m اونچے ٹاور کے سامنے کی لمبائی $10\sqrt{3} m$ ہے۔ سورج کا زاویہ ارتفاع


90° (d) 45° (c) 60° (b) 30° (a)

-7 ایک ٹاور کی اونچائی 50m ہے۔ اس ٹاور کے سامنے کی لمبائی معلوم کیجیے جب سورج کا زاویہ ارتفاع 45° ہے۔


-8 ایک 50m اونچے کھبے کے سامنے کی لمبائی $\frac{50}{\sqrt{3}} m$ ہے۔ سورج کا زاویہ ارتفاع معلوم کیجیے۔

-9 $10\sqrt{3}$ میٹر اونچائی والی ایک مینار کی چوٹی کا زمین پر مینار کے پایہ سے 30m کے فاصلے پر واقع نقطہ سے زاویہ ارتفاع معلوم کیجیے۔


- 9۔ ایک پنگ جو فتح سطح سے $\sqrt{3}$ میٹر کی اونچائی پر اڑ رہی ہے ایسی ڈوری سے بند ہی ہے جو فتح سطح سے 60° کے زاویے پر جھکی ہوئی ہے۔ ڈور کی لمبائی معلوم کیجیے۔
 10۔ شکل میں مستطیل ABCD کا احاطہ معلوم کیجیے۔




- 11۔ دی ہوئی شکل میں BC کی قدر معلوم کیجیے۔




- 12۔ دی ہوئی شکل میں ٹاور کی مختلف سمتیوں میں دو شخص نقطے P اور Q پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ٹاور کی اونچائی 60 m ہو تو ان دونوں اشخاص کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔



- 13۔ شکل میں AB کی قدر معلوم کیجیے۔



شکل میں CF کی قدر معلوم کیجیے۔ - 14



ایک پل سے کشتی کا افقی فاصلہ 25m اور پل کی اونچائی 25 میٹر ہے تو پل سے کشتی کا زاویہ جھکا وہ معلوم کیجیے۔ - 15

مختصر جواب والے سوالات (ٹائپ-I)

ایک پنگ کے دھاگے کی لمبائی 150 m ہے اور یہ مسطح زمین کے ساتھ 60° کا زاویہ بناتی ہے۔ پنگ کی مسطح زمین سے اونچائی معلوم کیجیے۔ (مان بجیے کہ دھاگے میں کوئی ڈھیل نہیں ہے) - 16

مسطح زمین پر واقع ٹاور کے سائز کی لمبائی اس وقت 10m زیادہ ہو جاتی ہے جب سورج کا زاویہ ارتفاع 45° سے تبدیل ہو کر 30° ہو جاتا ہے۔ ٹاور کی اونچائی معلوم کیجیے۔ - 17

ایک ہوائی جہاز 200 میٹر کی اونچائی پر اڑتے ہوئے دریا کے مقابل کناروں پر واقع دو نقطوں کے زاویہ جھکا 60° اور 45° دیکھتا ہے۔ دریا کی چوڑائی معلوم کیجیے۔ ($\sqrt{3} = 1.732$ بجیے) - 18

زمین پر واقع ایک نظم سے بینار کے اوپری سرے کا زاویہ ارتفاع 45° ہے۔ بینار کی طرف 40 m چلتے پر یہ زاویہ 60° ہو جاتا ہے۔ بینار کی اونچائی معلوم کیجیے۔ - 19

ایک درخت کا اوپری حصہ ٹوٹ کر اپنے نچلے حصے سے 25 m کی دوری پر زمین کو چھوتا ہے۔ اگر زمین کے ساتھ اس کا زاویہ 30° ہو تو درخت کی اونچائی معلوم کیجیے۔ - 20

ایک جھنڈا زمین پر لگا ہوا ہے۔ زمین پر 100 m کے فاصلے پر موجود نقطے سے جھنڈے کے اوپری سرے کا زاویہ ارتفاع 45° ہے۔ جھنڈے کی اونچائی معلوم کیجیے۔ - 21

- 22- ایک پنگ کی ڈوری کی لمبائی $m = 200$ ہے۔ اگر ڈوری زمین کے ساتھ α زاویہ بناتی ہے اور $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ہو تو پنگ کی اونچائی معلوم کیجیے اگر ڈوری میں کوئی ڈھیل نہیں ہے۔
- 23- ایک ہوائی جہاز 30000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ایک دوسرے ہوائی جہاز کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب وہ دوسرے ہوائی جہاز کے اوپر ہے ٹھیک اسی وقت زمین پر واقع کسی نقطے سے دونوں ہوائی جہازوں کے بلندی کے زاویے بالترتیب 60° اور 45° تھے۔ دونوں جہازوں کے درمیان کا عوادی فاصلہ معلوم کیجیے۔ ($\sqrt{3} = 1.732$)
- 24- ایک مینار کے اوپر $m = 7$ اونچا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ زمین پر موجود ایک نقطے سے جھنڈے اور مینار کے اوپر سروں کے زاویہ ارتفاع بالترتیب 45° اور 30° ہیں۔ مینار کی اونچائی معلوم کیجیے۔
- 25- آندہ ایک سرکس کے کھلاڑی کو رسی پر چڑھتے دیکھ رہا ہے جو $m = 20$ لمبی ہے اور ایک انتسابی (عمودی) کھبے سے بندھی ہے۔ اگر رسی زمین کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتی ہے تو کھبے کی اونچائی معلوم کیجیے۔

طويل جواب والے سوالات

- 26- پانی کی سطح سے 10 میٹر اپر کسی جہاز پر کھڑا ہوا ایک آدمی کسی کھڑی ہوئی چٹان کی چوٹی کی بلندی کا زاویہ 60° اور اس کے پانے کے جھکاؤ کا زاویہ 30° دیکھتا ہے۔ چٹان کا جہاز سے فاصلہ اور کھڑی ہوئی چٹان کی اونچائی معلوم کیجیے۔
- 27- ایک سڑک پر، زمین سے 20 میٹر کی اونچائی پر واقع ایک کھڑکی سے سڑک کے دوسری طرف ایک مکان کی چوٹی اور پانے کا زاویہ ارتفاع اور زاویہ جھکاؤ بالترتیب 60° اور 45° ہیں۔ دکھائیے کہ مقابل مکان کی اونچائی $(\sqrt{3} + 1)60$ ہے۔
- 28- زمین پر واقع ایک نقطہ A سے جیٹ جہاز کا زاویہ ارتفاع 60° ہے۔ 30 سینٹ کی اڑان کے بعد زاویہ ارتفاع 30° ہو جاتا ہے۔ اگر جیٹ $\sqrt{3} 3600$ میٹر کی اونچائی پر اڑ رہا ہے تو جیٹ کی رفتار کلو میٹر فی گھنٹہ میں معلوم کیجیے۔
- 29- $m = 80$ اونچے پیڑ کے اوپری حصہ پر نہ بیٹھا ہے۔ زمین پر واقع کسی نقطے سے پرندے کا زاویہ ارتفاع 45° ہے۔ اگر پرندہ اس نقطہ کی مخالف سمت میں اس طرح اڑے کہ اس کی اونچائی مساوی رہے تو 2 سینٹ بعد اسی نقطے سے پرندہ کا زاویہ ارتفاع 30° ہو جاتا ہے۔ پرندے کی رفتار معلوم کیجیے۔
- 30- سطح زمین پر کھڑے ہوئے ایک ٹاور کا سایہ اس وقت $30m$ لمبا ہو جاتا ہے جب سورج کا زاویہ ارتفاع 60° سے 30° ہو جاتا ہے۔ ٹاور کی اونچائی معلوم کیجیے۔

- 31- ایک مینار کے پائے سے ایک عمارت کے اوپری سرے کا زاویہ ارتفاع 30° ہے اور عمارت کے پائے سے مینار کے اوپری سرے کا زاویہ ارتفاع 60° ہے۔ اگر مینار کی اونچائی 60 میٹر ہو تو عمارت کی اونچائی معلوم کیجیے۔ (CBSE-2020)
- 32- سطح سمندر سے m 100 اونچے ایک لائٹ ہاؤس سے دیکھنے پر لائٹ ہاؤس کی طرف آتے ہوئے ایک جہاز کا زاویہ جھکاؤ 30° سے 60° ہو جاتا ہے۔ اس مشاہدہ کے دوران جہاز کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ معلوم کیجیے۔ ($\sqrt{3} = 1.732$ لججی)
- 33- 60 میٹر اونچی ایک عمارت کی چوٹی سے لائٹ ہاؤس کی چوٹی اور پائے کے زاویے ارتفاع اور زاویہ جھکاؤ با ترتیب 30° اور 60° ہیں۔ معلوم کیجیے:
- لائٹ ہاؤس اور عمارت کی اونچائی میں فرق
 - لائٹ ہاؤس اور عمارت کے درمیان فاصلہ
- 34- دو فائر اسٹیشن P اور Q ایک سیدھی سڑک پر واقع ہیں۔ ان کے درمیان کا فاصلہ km 20 ہے۔ ان اسٹیشنوں کو فون کے ذریعے ایک اطلاع ملتی ہے کہ بلڈنگ B میں آگ لگ گئی ہے۔ بلڈنگ B فائر اسٹیشن P سے 60° اور Q سے 45° پر واقع ہے۔ معلوم کیجیے:
- کس اسٹیشن کو پنی ٹیم روانہ کرنی چاہیے؟
 - اس ٹیم کو بلڈنگ Tک پہنچنے میں کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا؟
- 35- ایک جھیل سے 10 میٹر اونچائی پر واقع کسی نقطہ سے بادل کا زاویہ ارتفاع 30° ہے۔ اور اسی نقطہ سے جھیل میں موجود بادل کی شبیہ کا زاویہ جھکاؤ 60° ہے۔ بادل کی اونچائی معلوم کیجیے۔ (CBSE-2020)
- 36- دو برابر اونچائی کے کھبے ایک 150 میٹر چوڑی سڑک کے دونوں طرف لگے ہیں۔ سڑک کے درمیان کسی نقطہ سے دونوں کھبے کے اوپری سروں کے زاویہ ارتفاع 60° اور 30° ہیں۔ کھبے کی اونچائی اور نقطہ کی دونوں کھبے سے دوری معلوم کیجیے۔ (CBSE-2011)
- 37- ایک مینار کے اوپری سرے کا زاویہ ارتفاع 30° ہے۔ اگر مشاہدہ مینار کی طرف 20 میٹر چلتا ہے تو زاویہ ارتفاع 15° بڑھ جاتا ہے۔ مینار کی اونچائی معلوم کیجیے۔
- 38- ایک 150 میٹر اونچی پہاڑی سے دور جاتی ہوئی ایک ناؤ کو دیکھا جاتا ہے۔ 2 منٹ میں ناؤ کا زاویہ ارتفاع 60° سے 45° ہو جاتا ہے۔ ناؤ کی چال میٹرنی گھنٹہ میں معلوم کیجیے۔ (CBSE-2017)

ایک 120 میٹر اونچی مینار کے اوپری سرے سے ایک آدمی مینار کے مخالف سمت میں دو کاروں کو دیکھتا ہے۔ جو مینار کے نچلے سرے سے ایک ہی افقی خط پر ہیں۔ اور 60° اور 45° کا جھکاؤ کا زاویہ بنا رہی ہیں۔ دونوں کاروں کے درمیان کا فاصلہ معلوم کیجیے۔ ($\sqrt{3} = 1.732$)


مسطح زمین پر واقع ایک 20 میٹر اونچی مینار کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے۔ جس کی اونچائی h میٹر ہے۔ زمین پر موجود ایک نقطہ سے جھنڈے کے نچلے اور اوپری سرول کے زاویہ ارتفاع بالترتیب 45° اور 60° ہیں۔ h کی قد معلوم کیجیے۔

(CBSE-2017)

ایک ٹی وی ڈش اینٹنیا کی چھڑی AC دیوار AB کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتی ہے۔ اور ایک چھڑی CD ڈیک کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اگر $AC = 1.5\text{m}$ اور $CD = 3\text{m}$ ہے تو معلوم کیجیے۔

(CBSE-2020)

$$\sec \theta + \cosec \theta \quad (\text{ii}) \quad \tan \theta \quad (\text{i})$$



مسطح زمین پر واقع کسی نقطے سے ایک ٹاور کا زاویہ ارتفاع α اس طرح ہے کہ $\tan \alpha = \frac{1}{3}$ ٹاور کی طرف 200m چلنے کے بعد زاویہ ارتفاع β ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ $\tan \beta = \frac{3}{4}$ ٹاور کی اونچائی معلوم کیجیے۔

ایک 20m اونچا عمودی طور پر سیدھا کھڑا ہوا درخت ہوا کی وجہ سے اس طرح ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کی چوٹی زمین کو چھوٹتی ہے اور زمین کے ساتھ 60° کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ درخت کتنی اونچائی پر ٹوٹا ہے؟

ایک چھیل سے h میٹر کی اونچائی پر واقع کسی نقطے سے بادلوں کا زاویہ ارتفاع 30° اور چھیل میں بادلوں کے عکس کا زاویہ جھکاؤ 60° ہے۔ ثابت کیجیے کہ بادلوں کی اونچائی $2h$ ہے۔ بادل اور مشاہد کے درمیان کا فاصلہ بھی معلوم کیجیے۔

h میٹر اونچے ایک ٹاور کے پایہ سے بالترتیب $x\text{m}$ اور $y\text{m}$ کے فاصلے پر ایک ہی خط پر واقع دونوں نقطوں P اور Q سے ٹاور کی چوٹی کے زاویہ ارتفاع بالترتیب 60° اور 30° ہیں۔ ثابت کیجیے کہ ٹاور کی اونچائی \sqrt{xy} میٹر ہے۔

-46- دو کھبے جنکی اونچائی 18m اور 30° ہے، زمین پر عمودی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دونوں کھبے کی چوٹی کو ایک تار کے ذریعے جوڑا گیا ہے اور یہ زمین کے ساتھ 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ تار کی لمبائی اور دونوں کھبے کے درمیان کا فاصلہ معلوم کیجیے۔

-47- ایک ٹرامسیشن ٹاور کی چوٹی سے 10m اونچے کھبے کی چوٹی اور پائے کے زاویہ جھکاؤ بالترتیب 45° اور 60° ہیں۔ ٹرامسیشن ٹاور کی اونچائی نیز کھبے اور ٹاور کے درمیان کا فاصلہ معلوم کیجیے۔ ($\sqrt{3} = 1.732$)

-48- ایک درخت آندھی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا ٹوٹا ہوا حصہ اس طرح جھک جاتا ہے کہ درخت کی چوٹی زمین کو 30° کے زاویہ پر چھوٹی ہے۔ وہ نقطہ جہاں سے درخت ٹوٹا ہے زمین سے 10m کی اونچائی پر ہے۔ درخت کی کل اونچائی معلوم کیجیے۔

جوابات اور اشارے

(c) .2	(b) .1
--------	--------

(c) .4	(b) .3
--------	--------

50 m .6	(c) .5
---------	--------

30° .8	60° .7
--------	--------

20($\sqrt{3} + 1$) .10	100 m .9
--------------------------	----------

60($\sqrt{3} + 1$)m .12	130m .11
---------------------------	----------

25 m .14	1000($\sqrt{3} - 1$)m .13
----------	-----------------------------

75 $\sqrt{3}$ m .16	45 .15
---------------------	--------

315.8 m .18	13.65 m .17
-------------	-------------

43.3 m .20	94.64 m .19
------------	-------------

میٹر 54 .22	100 m .21
-------------	-----------

$\sqrt{9.562}$.24		1268 m	.23
$10\sqrt{3}m, 40m$.26		10 m	.25
29.28 m	.29		864km/hr	.28
$\sqrt{20}$.31		$15\sqrt{3}m$.30
20 m 34.6 m	.33		115.5 m	.32
$\sqrt{20}$.35		7.4 km Station P	.34
$10(\sqrt{3} + 1)m$.37	$375 \text{ m} = 64.95 \text{ m دوري اونچائي = }$.36	
189.28 m	.39		1902 m/hr	.38
		$\sqrt{20(\sqrt{3} - 1)}$.40
		$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$	(i)	.41
$h = 120 \text{ m}$	-42	$\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta = \frac{2}{\sqrt{3}} + 2$	(ii)	
$2hm$	-44	$20\sqrt{3}m(2 - \sqrt{3})m$	-43	
		$8\sqrt{3}m = \text{تارکی لمبائی}$	-46	
$h = 23.66 \text{ m}$	-47	$4\sqrt{3}m = \text{دوري اونچائي = }$		
$d = 13.66 \text{ m}$		$30 \text{ m درخت کی اونچائی ہے۔}$	-48	

مشقی سوالات

ٹرگنومیٹری کے کچھ استعمال

کل نمبر: 20


وقت: 1 گھنٹہ

- 1 6 میٹروں پر کھبے کے سائے کی لمبائی $\sqrt{3}$ میٹر ہے۔ سورج کا زاویہ ارتفاع معلوم کیجیے۔ -1
ایک ٹاور کی اونچائی m 100 ہے۔ اگر سورج کا زاویہ ارتفاع 30° ہو تو ٹاور کے سائے کی لمبائی معلوم کیجیے۔ -2
1 h میٹروں پر کھبے کے سائے کی لمبائی h $\sqrt{3}$ میٹر ہے۔ سورج کا زاویہ ارتفاع ہے۔ -3
 90° (d) 60° (c) 45° (b) 30° (a)
1 ایک 1.5 میٹروں پر اونچائی والا مشاہد 22 میٹروں پر میnar سے 20.5 میٹر کی دوری پر کھڑا ہے۔ میnar کے اوپری سرے کا زاویہ ارتفاع ہوگا۔ -4
 0° (d) 60° (c) 45° (b) 30° (a)
2 مسطح زمین پر موجود ایک نقطہ سے ٹاور کے نچلے حصہ کا فاصلہ m 20 اور زاویہ ارتفاع 60° ہے۔ -5
ٹاور کی اونچائی معلوم کیجیے۔
2 ایک میnar کی اونچائی اور اس کے سائے کی لمبائی کی نسبت $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ہے۔ سورج کا زاویہ ارتفاع معلوم کیجیے۔ -6
2 ایک میnar کے اوپری سرے کا زاویہ ارتفاع 30° ہے۔ اگر میnar کی اونچائی میں گناہ کردی جائے تو ثابت کیجیے کہ زاویہ ارتفاع دو گناہ ہو جائے گا۔ -7
3 دو میnarوں کے سرے بننے کی اونچائیاں با ترتیب x اور y ہیں۔ ان کے نچلے سروں کو ملانے والے خط کے مطیع نقطہ سے 30° اور 60° کے زاویہ ارتفاع بناتے ہیں۔ y:x معلوم کیجیے۔ -8
3 ایک چٹان کی چوٹی سے m 100 اونچے ٹاور کی چوٹی اور اس کے پائے کے زاویہ ارتفاع 30° اور 45° ہیں۔ -9
چٹان کی اونچائی معلوم کیجیے۔
4 پانی کی سطح سے 10 میٹروں پر کسی جہاز پر کھڑا ہوا ایک آدمی کسی کھڑی ہوئی چٹان کی چوٹی کی بلندی کا زاویہ 60° اور اس کے پائے کے جھکاؤ کا زاویہ 30° دیکھتا ہے۔ چٹان کا جہاز سے فاصلہ اور کھڑی ہوئی چٹان کی اونچائی معلوم کیجیے۔ -7

باب 10

دائرے (Circles)

عنوان : کسی دائرہ کی خط مماسیں اور دائرہ کے کسی نقطے سے خط مماسوں کی تعداد



اهم نکات:

1. دائیرہ مستوی میں ایسے تقاض کا مجموعہ ہے جو ایک متعین نقطے سے مستقل فاصلہ پر واقع ہوں۔ متعین نقطہ کو دائیرہ کا مرکز اور مستقل فاصلہ کو نصف قطر کہتے ہیں۔
2. دائیرے کا خط مماس : کسی دائیرے کا خط مماس وہ خط ہے جو دائیرے کو صرف ایک نقطے پر قطع (چھوتا ہے) کرتا ہے۔
3. دائیرے کے ایک نقطے پر صرف ایک خط مماس ہوتا ہے۔
4. دائیرہ پر لاتعداد خط مماس بنائے جاسکتے ہیں۔
5. (a) دائیرے کا خط مماس نقطہ مماس سے گزرنے والے نصف قطر پر عمود ہوتا ہے۔
(b) دائیرے کے کسی باہری نقطے سے دائیرے پر کھینچ جانے والے مماسوں کی لمبائیاں برابر ہوتی ہیں۔
6. قاطع خط (Secant):—اگر کوئی خط کسی دائیرہ کو دونوں نقطوں پر قطع کرتا ہے تو وہ قاطع خط کہلاتا ہے۔
7. قاطع خط کی تعداد:— کسی دائیرہ پر لاتعداد قاطع خط بنائے جاسکتے ہیں۔

- خط مماس، قاطع خط کی ایک خاص قسم ہے۔ -8
- دائرہ کے اندر ونی حصہ کے کسی نقطہ سے خط مماس نہیں کھینچی جاسکتی۔ -9
- دائرہ کے اوپر کسی نقطہ سے گذرتی ہوئی صرف ایک ہی خط مماس کھینچی جاسکتی ہے۔ -10
- دائرہ کے کسی باہری نقطہ سے دائرة پر صرف دو خط مماس کھینچی جاسکتی ہیں۔ -11

مختصر ترین جواب والے سوالات


-1 ایک دائرة کتنے خط مماس پر مشتمل ہو سکتا ہے؟

- | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-----------|
| (a) صرف ایک | (b) دو | (c) کوئی بھی نہیں | (d) لاحدہ |
|-------------|--------|-------------------|-----------|

-2 دائرة کا خط مماس دائرة کو قطع کرتا ہے:

- | | | | |
|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| (a) صرف ایک نقطہ پر | (b) دونقطوں پر | (c) کسی بھی نقطہ پر نہیں | (d) لاحدہ دونقطوں پر |
|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|

-3 دی ہوئی شکل میں اگر PQ خط مماس ہے تو $(\angle POQ + \angle QPO)$ کی قدر ہے۔



- | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| (a) 60° | (b) 90° | (c) 120° | (d) 180° |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|


-4 5cm نصف قطر والے ایک دائرة کے نقطہ P پر خط مماس PQ مرکز O سے ہو کر جانے والے خط کو نقطہ Q پر ملتا ہے اور PQ کی لمبائی 12cm ہے۔

- | | | | |
|----------|----------|----------|--------------------|
| (a) 12cm | (b) 13cm | (c) 15cm | (d) $\sqrt{119}cm$ |
|----------|----------|----------|--------------------|

5۔ دائرہ میں زیادہ سے زیادہ — متوازی خطوط مماس ہو سکتے ہیں۔


- | | | | |
|---------|-----|----|-----|
| چار | (b) | دو | (a) |
| لامحدود | (d) | چھ | (c) |

6۔ دی ہوئی شکل میں PQ، مرکز O والے دائرہ کا خط مماس ہے۔ اگر $\angle AOB = 95^\circ$ ہے تو $\angle ABQ$ کی پیمائش ہے:




- | | | | |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 47.5° | (b) | 42.5° | (a) |
| 95° | (d) | 85° | (c) |

7۔ دی گئی شکل میں BC کی لمبائی معلوم کیجیے۔




8۔ ایک باہری نقطہ P سے خط مماس کی لمبائی 24 cm اور مرکز سے اس نقطہ کا فاصلہ 25 cm ہے۔ دائرہ کا نصف قطر معلوم کیجیے۔

9۔ دی گئی شکل میں ABCD ایک دائری چارضلعی ہے۔ اگر $\angle BAC = 50^\circ$ اور $\angle DBC = 60^\circ$ ہو تو $\angle BCD$ کی قدر معلوم کیجیے۔




- 10- دی گئی شکل میں O مرکز والے دائرہ کا ایک وتر (chord) PR اور ایک خط مماس ہے۔ اگر $\angle QPR = 50^\circ$ ہے تو $\angle POQ$ کی لمبائی معلوم کیجیے۔




- 11- نصف قطر والے دائرہ پر دو خطوط مماس اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ان کے درمیان کا زاویہ 60° ہے۔ دونوں مماسی خطوط کی لمبائی معلوم کیجیے۔

- 12- دو ہم مرکز دائروں کے نصف قطر 4 cm اور 5 cm ہیں۔ بڑے دائرہ کے وتر کی لمبائی معلوم کیجیے جو چھوٹے دائرہ کا خط مماس ہے۔


- 13- دی گئی شکل میں PQ باہری دائرہ اور PR اندر ونی دائرہ کے خط مماس ہیں۔ اگر $OQ = 3\text{ cm}$ اور $PQ = 4\text{ cm}$ ہو تو PR کی لمبائی معلوم کیجیے۔




شکل میں O دائرے کا مرکز ہے۔ اور PA اور PB دائرے کے خطوط مماس ہیں۔ $\angle AQB = 40^\circ$ کی قدر معلوم کیجیے۔ - 14



ویگئی شکل میں $\angle COD = 125^\circ$ ہے۔ $\angle AOB = 125^\circ$ معلوم کیجیے۔ - 15



اگر TP اور TQ باہری نقطہ T سے دائرة پر بنائے گئے دو خطوط مماس ہیں اور $\angle TQP = 60^\circ$ ہے تو $\angle OPQ$ معلوم کیجیے۔ - 16



- 17 - نصف قطر والے دائرہ پر کھینچے گئے دو متوازی خطوط مماس کے دونوں نقطے مماس کے درمیان کا فاصلہ معلوم کیجیے۔

- 18 - اگر دو متوازی خطوط مماس کے درمیان کا فاصلہ 10 cm ہے تو دائرہ کا نصف قطر معلوم کیجیے۔

- 19 - دو دائروں کو داخلی طور پر چھوٹے ہوئے کتنے مشترک خطوط مماس کھینچے جاسکتے ہیں؟

مختصر جواب والے سوالات (ٹائپ-ا)


- 20 - دو ہم مرکز دائروں کے قطر d_1 اور d_2 ہیں ($d_1 > d_2$) اور C دائرہ کے وتر کی لمبائی ہے جو دوسرے دائرہ پر خط مماس

$$d_2^2 = C^2 + d_1^2$$

- 21 - نصف قطر والے دائرہ پر یہ دونی نقطے P سے خط مماس کی لمبائی 6 cm ہے۔ دائرہ کے قریب ترین نقطے سے نقطہ P کا فاصلہ معلوم کیجیے۔

- 22 - مرکز O والے دائرہ کی یہ دونی نقطے T سے خط مماس TP اور TQ ہیں۔ اگر $\angle OPQ = 30^\circ$ ہے تو $\angle TQP$ کی قدر معلوم کیجیے۔


- 23 - شکل میں ABC کا نصف احاطہ معلوم کیجیے۔




- 24 - ایک قائم زاوی مثلىت کے اضلاع a, b اور c ہیں۔ ان میں سے مثلىت کا وتر ہے۔ اس مثلىت کے اندر وون میں ایک دائرہ بنایا ہے جو مثلىت کے سبھی اضلاع کو چھوتا ہے۔ ثابت کیجیے کہ دائرہ کا نصف قطر $\frac{a+b-c}{2} = r$ ہوگا۔

- 25 - دو ہم مرکز دائروں میں سے بڑے دائرے کے لیے کھینچا گیا وتر جو چھوٹے دائرہ کو چھوتا ہے، نقطہ مماس پر تنصیف ہوتا ہے۔ ثابت کیجیے۔


- 26 - شکل میں AC مرکز O والے دائرہ کا قطر ہے اور A نقطہ مماس ہے۔ x کی قدر معلوم کیجیے۔




شکل میں اور PA اور PB نقطہ P سے خط مماس ہیں۔ ثابت کیجیے کہ $KN = AK + BN$ ہے۔ -27




شکل میں وتر PQ کی لمبائی 6cm اور دائرہ کا نصف قطر $TP = 6\text{cm}$ ہے۔ اور TQ دائیرے کے خط مماس ہیں۔ $\angle PTQ = x$ کی قدر معلوم کیجیے۔ -28




دی ہوئی شکل میں ABC ایک مثلث ہے جس میں $\angle B = 90^\circ$ اور $AB = 14\text{cm}$ ، $BC = 48\text{cm}$ ہے۔ اس مثلث کے اندر ایک دائیرہ بنایا گیا ہے۔ جس کا مرکز O ہے۔ دائیری کا نصف قطر معلوم کیجیے۔ -29




اگر مثلث ABC کے اندر بنایا گیا دائیرہ BC کو D پر چھوٹتا ہے تو ثابت کیجیے کہ $AB - BD = AC - CD$ ہے۔ -30




- 31 ایک نقطہ P، 5cm نصف قطر والے دائرہ کے مرکز O سے 13cm کے فاصلے پر ہے۔ اس نقطے P سے دائرہ پر دو خطوط مماس PR اور PQ رسم کیجئے گے ہیں۔ چارضلعی PQOR کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- 32 دی ہوئی شکل میں نقطہ A سے دائرہ پر AC اور AB دو خطوط مماس اس طرح کھینچنے گے ہیں کہ $\angle BAC = 30^\circ$ ہے۔ خط مماس AC کے متوازی ایک وتر BD کھینچا گیا ہے۔ $\angle DBC$ معلوم کیجیے۔




-33 x کی قدر معلوم کیجیے۔



- 34 اور PB مرکزو والے دائرہ کے دو خطوط مماس ہیں اگر $\angle AQB = 70^\circ$ ہے تو $\angle APB$ معلوم کیجیے۔




-35 دی ہوئی شکل میں، CD ایک خط مماس ہے اور AB مرکز O والے دائرہ کا قطر ہے۔ اگر $\angle ADC = 30^\circ$ ہے تو $\angle DCB = ?$ اور معلوم کیجیے۔




طويل جواب والے سوالات

-36 ایک دائرہ مثلث ABC کے اندر بنایا گیا ہے۔ مثلث کے اضلاع $AC = 10 \text{ cm}$, $BC = 8 \text{ cm}$, $AB = 12 \text{ cm}$ ہیں۔ اور $CF = BE$ اور $AD = CF$ معلوم کیجیے۔




-37 شکل میں OP دائرہ کے قطر کے مساوی ہے جہاں O دائرہ کا مرکز ہے۔ ثابت کیجیے کہ مثلث ABP ایک مساوی الاضلاع


مثلث ہے۔




شکل میں PC کی لمبائی معلوم کیجیے۔ -38




شکل میں دائرة کا نصف قطر معلوم کیجیے۔ -39




شکل میں PQ دائرہ کا خط مماس اور PB قطر ہے۔ اور y کی قدر معلوم کیجیے۔ -40




دی گئی شکل میں، دو دائروں ایک دوسرے کو نقطہ C پر چھوتے ہیں ثابت کیجیے نقطہ C سے گزرنے والی مشترک خط مماس دائروں کے نقطوں P اور Q کو ملانے والی مشترک خط مماس کو دو برابر حصوں (Bisect) میں تقسیم کرتی ہے۔ -41



دی گئی شکل میں، ایک دائرة چارضلعی ABCD کے چاروں اضلاع کو چھوتا ہے۔ اگر BC = 9cm، AB = 6cm اور CD = 8cm ہو تو AD کی لمبائی معلوم کیجیے۔ -42




شکل میں مرکز O والے دائرة پر باہری نقطہ P سے چھپی گئی خط مماس ہے۔ اگر $\angle APO = 115^\circ$ ہو تو $\angle POB = 115^\circ$ معلوم کیجیے۔ -43




شکل میں، اور XQ مرکز O والے دائرہ پر نقطہ X سے کچھی گئی خط مماسیں ہیں۔ دائرہ پر R کوئی نقطہ ہے اور AB نقطہ

$$R \text{ پر خط مماس ہے۔} - \text{ثابت کیجیے} \quad -44$$



دی گئی شکل میں ΔABC کا احاطہ معلوم کیجیے۔ اگر $AP = 12\text{cm}$ تو۔



جوابات اور اشارے

باہری نقطے سے دائرہ پر کچھی گئی خط مماسوں کی لمبائیاں برابر ہوتی ہیں۔ اس لیے

$$BN = BL, MC = CL$$

$$BL + CL = BC = 10\text{cm}$$

فیٹانورث مسئلہ کے ذریعے

$$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{(OP)^2 - (PQ)^2} \\ &= \sqrt{(25)^2 - (24)^2} = 7\text{cm} \end{aligned}$$

ایک ہی قطع میں بنے تمام زاویوں کی پیمائش مساوی ہوتی ہے۔

$\angle DAC = 60^\circ$ ایک خط قاطع ہے اس پر


$$\angle BCD = 70^\circ$$

دائرہ کا خط مماس نقطہ مماس سے گزرنے والے نصف قطر پر عمودی ہوتا ہے۔ -10

$$\angle RPO = 90^\circ$$

$$\angle OPQ = \angle OQP = 40^\circ$$

$$\angle POQ = 100^\circ$$



-11


$$\Delta QPO \cong \Delta RPO$$

$$\Rightarrow \angle QPO = \angle RPO = 30^\circ$$

یہ $\angle QPO$

(خط مماس اور نصف قطر کے درمیان زاویہ: 90°) $\angle OQP = 90^\circ$

$$\tan 30^\circ = \frac{OQ}{QP} \Rightarrow QP = 3\sqrt{3} \text{ cm}$$



-12

یہ $\angle P$ قائم زاویہ ہے۔

$$OA^2 = (AP)^2 + (OP)^2$$

$$(5)^2 = (AP)^2 + (4)^2$$

$$\Rightarrow AP^2 = 9$$

$$\Rightarrow AP = 3 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow AB = 6 \text{ cm}$$


$\Delta P Q O$ - 13

$$(4)^2 + (3)^2 = (OP)^2$$

$$5 = OP$$

$$(5)^2 = (2)^2 + (PR)^2$$

$$PR = \sqrt{21} \text{ cm}$$



- 14


چار ضلعی میں PBOA

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$$

$$\angle 1 + \angle 3 = 140^\circ$$

$$\angle 3 = 2\angle 5 \quad \text{ تو}$$

$$\angle AQB = 70^\circ \quad \text{یا} \quad \angle 5 = 70^\circ$$



- 15

$$\angle 2 = \angle 1$$

$$\angle 4 = \angle 3$$

متضاد مثلثوں کے نظیری ہیں

$$\angle 6 = \angle 5$$

$$\angle 8 = \angle 7$$

$$2(\angle 2 + \angle 3 + \angle 6 + \angle 7) = 360^\circ$$

$$\angle AOB + \angle COD = 180^\circ$$

$$\angle COD = 55^\circ$$


(خط مماس اور نصف قطر کے درمیان زاویہ) $\angle OQT = 90^\circ$ -16

18cm -17

5cm -18

1 -19


-20



$$AO^2 = OP^2 + AP^2$$

$$\left(\frac{d_2}{2}\right)^2 = \left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2$$

$$\frac{d_2^2}{4} - \frac{d_1^2}{4} = \frac{c^2}{4}$$



چیزیاں ΔOTP


$$(OP)^2 = (OT)^2 + (PT)^2$$

$$= (2.5)^2 + (6)^2$$

$$(OP)^2 = 42.25$$

$$OP = \sqrt{42.25} = 6.5\text{ cm}$$

$$QP = 6.5 - 2.5 = 4\text{ cm}$$



-22

$$\angle OQP = \angle OPQ = 30^\circ$$

$$\angle OQT = 90^\circ$$

$$\begin{aligned}\angle TQP &= \angle OQT - \angle OQP \\ &= 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ\end{aligned}$$

$$AP = AR = 4\text{cm} \quad -23$$

$$CR = CQ = 5\text{cm}$$

$$QB = BP = 6\text{cm}$$

$$\frac{1}{2}[AC + AB + BC]$$

$$\frac{1}{2}[9 + 10 + 11]$$

$$= 15\text{cm}$$

$$a - r = BF \quad -24$$


$$b - r = AF$$

$$AB = C = AF + BF$$

$$C = b - r + a - r$$

$$r = \frac{a + b - c}{2}$$

10.1 NCERT



-25

OPP

دائرہ C₁ کی خط مماس ہے اور OP نصف قطر ہے۔

$$OP \perp AB$$

دائرہ C₂ کا وتر ہے اور OP ⊥ AB

اس لیے OP AB کا عمودی نصف ہے۔

$$AP = BP$$

$$\angle OAB = 50^\circ \quad -26$$

$$x + \angle B + \angle OAB = 180^\circ$$

$$x + 90^\circ + 50^\circ = 180^\circ$$


$$x = 40^\circ$$

$$AK = KC \quad -(1) \quad -27$$

$$BN = NC \quad -(2)$$

$$KN = KC + NC$$

$$= AK + BN [\leftarrow (2), \text{if } (1)]$$



-28

$$\angle POQ + \angle PTQ = 180^\circ$$

$$60^\circ + \angle PTQ = 180^\circ$$

$$\angle PTQ = 120^\circ$$

$$r = 6\text{cm} \quad -29$$

$$\text{Paste} \quad -30$$

$$60\text{cm}^2 \quad -31$$

$$\angle DBC = 75^\circ \quad -32$$

$$x = 60 \quad -33$$

$$\angle AQB = 125^\circ \quad -34$$

$$\angle ADC = 120^\circ \quad -35$$

$$AD = 7\text{cm}, BE = 5\text{cm} \quad -36$$

$$CF = 3\text{cm}$$

$$OP = 2r \quad -37$$

$$\Rightarrow OQ = OP = r$$

- اور $OP \perp OA$ اور $OQ \perp AP$ میں

$$OQ = AQ = OA$$

(دتر کا وسطی نقطہ راسوں سے برابر دوری پر ہوتا ہے)

$$\angle OAP = 90^\circ \Rightarrow \angle APO = 30^\circ$$

$$\angle APB = 2 \angle APO = 60^\circ$$

(خط مماس) $PA = PB$


$$\angle APB = 60^\circ \quad \Delta APB$$

$$\angle PAB = \angle PBA = 60^\circ \quad \text{اس لیے}$$

میں تمام زاویہ 60° کے ہیں۔

$$PC = 5\text{cm} \quad -38$$

$$11\text{cm} \quad -39$$



$$\angle 1 = 90^\circ \quad \Delta ABC$$

(نصف دائرہ میں بنا زاویہ)

$$\angle 1 + 35^\circ + y = 180^\circ$$

$$90^\circ + 35^\circ + y = 180^\circ$$

$$y = 180 - 125 = 55^\circ$$

میں $\Delta O B Q$

(خط مماس اور نصف قطر کے درمیان زاویہ) $\leftarrow \angle 2 = 90^\circ$

$$\angle 2 + \angle x + \angle y = 180^\circ$$

$$90^\circ + \angle x + 55^\circ = 180^\circ$$

$$\angle x = 35^\circ$$

$$AD = 5\text{cm} \quad \text{-42}$$

$$25^\circ \quad \text{-43}$$

$$24\text{cm} \quad \text{-45}$$


مشقی سوالات

دائرے


وقت: 1 گھنٹہ

کل نمبر: 20


- 1 دی ہوئی شکل میں x کی قدر معلوم کیجیے اگر $\angle STO = 40^\circ$ دائرہ خط مماس ہے۔ -1



- 1 دی ہوئی شکل میں اگر $AC = 9 \text{ cm}$ ہے تو BD کی قدر معلوم کیجیے۔ -2



- 1 دی ہوئی شکل میں ایک دائرہ بنا ہوا ہے ضلع BC کی لمبائی معلوم کیجیے۔ -3




- 2 دائرہ کے کسی باہری نقطہ P سے، اور OPB دو خط مماس تھنچی گئی ہیں۔ اگر O دائرہ کا مرکز ہے اور $\angle AOB = 50^\circ$ ہو تو $\angle PAB$ کی پیمائش معلوم کیجیے۔ -4

- 2 اگر کسی دائرہ کا مرکز O اور نصف قطر a ہے اس دائرہ پر باہری نقطہ P سے دو خط مماسیں تھنچی گئی ہیں۔ دونوں خط مماسوں کے درمیان 60° کا زاویہ ہے تو OP کی لمبائی معلوم کیجیے۔ (All India 2011) -5


2

دی ہوئی شکل میں x کی قدر معلوم کیجیے۔ -6




2

ہم مرکز دائروں کے نصف قطر 6 cm اور 3 cm ہیں۔ باہری نقطے P سے PA اور PB دو خط مماس بنائے گئے ہیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اگر $AP = 10\text{ cm}$ ہو تو BP معلوم کیجیے۔ -7




3

دی ہوئی شکل میں $\angle ABQ = \angle PRQ$ والے دائرہ کا خط مماس ہے ثابت کیجیے کہ $\angle BPQ = \angle PRQ$ ۔ -8




3

دی ہوئی شکل میں 3 cm نصف قطر کا ایک داخلی دائیرہ جو کہ مثلث ABC کے اندر اس طرح ہے کہ قطعات خط BD اور DC اور BC کے ذریعے D پر اس طرح بنے ہیں کہ ان کی لمبائیاں 8 cm اور 6 cm ہیں۔ اگر $ar(\Delta ABC) = 63\text{ cm}^2$ ہو تو ضلع AB کی لمبائی معلوم کیجیے۔ -9



4 مرکز والے دائرہ کا قطر AB اور AT دائرہ کا خط مماس ہے۔ اگر $\angle AOQ = 58^\circ$ ۔ 10

تے معلوم کیجیے۔



باب 11

دائروں سے متعلق رقبہ

(Areas Related to Circles)

مختصر ترین جواب والے سوالات

- اگر ایک نصف دائری چاند کا قطر 14 cm ہو تو اس کا محیط معلوم کیجیے۔
 - اگر کسی دائرہ کا محیط اور رقبہ ایک دوسرے کے مساوی ہوں تو اس دائرہ کا قطر معلوم کیجیے۔
 - a) ضلع والے مریع کے اندر وون میں بننے والے کارقبہ معلوم کیجیے۔ (دائرة اس مریع کے تمام اضلاع کو چھوتا ہے)
 - دائرہ کے اس سیکٹر کا رقبہ معلوم کیجیے جس کا نصف قطر r اور نظیری قوس کی لمبائی l ہو۔
 - ایک پیسے کا نصف قطر 0.25 m ہے۔ پیسے کے ذریعے 11 km کا فاصلہ طے کرنے میں لگائے گئے چکروں کی تعداد معلوم کیجیے۔
 - اگر ایک دائرہ کا رقبہ cm^2 616 ہو تو اس کا محیط معلوم کیجیے۔
 - ایک cm 6 ضلع والے مریع کے اندر بننے والے کارقبہ معلوم کیجیے۔
 - دو دائروں کے نصف قطر بالترتیب 17 cm اور 24 cm ہیں۔ اس دائرة کا قطر معلوم کیجیے جس کا رقبہ ان دونوں دائروں کے رقبوں کے حاصل جمع کے مساوی ہے۔
 - ایک تار کو موڑ کر cm 35 نصف قطر والا ایک دائرة بنایا گیا ہے۔ اگر تار کو مریع کی شکل میں موڑ دیا جائے تو اس مریع کا رقبہ معلوم کیجیے۔
 - ایک دائرة کا نصف قطر cm 6 اور ایک قوس کی لمبائی cm 3π ہے۔ اس کے ذریعے مرکز پر بنائے گئے زاویے کی قیمت معلوم کیجیے۔
 - اگر دو دائروں کے محیط کی نسبت 3:2 ہو تو ان کے رقبوں کی نسبت کیا ہوگی؟
 - اگر ایک دائرة کا محیط اور نصف قطر کا فرق cm 37 ہو تو دائرة کا محیط معلوم کیجیے۔
 - اگر کسی دائرة کا قطر 40% بڑھادیا جائے تو اس کے رقبہ میں کتنے فیصد کا اضافہ ہوگا؟
-

- 14 ایک گھری کی منٹ کی سوئی کی لمبائی cm 6 ہے۔ صبح 11:20 سے 11:55 تک منٹ کی سوئی کے ذریعے طے کیا گیا رقبہ معلوم کیجیے۔

(CBSE-2020) - 15 نصف قطر والے ایک دائرہ کے سیکٹر کا احاطہ 68cm ہے۔ اس سیکٹر کا رقبہ معلوم کیجیے۔

(CBSE-2020) - 16 ایک دائرہ کا محیط 396cm ہے اس کا رقبہ معلوم کیجیے۔ $\pi = \frac{22}{7}$

- 17 ایک گھری کی منٹ کی سوئی کی لمبائی 14cm ہے۔ ایک منٹ میں سوئی کے ذریعے طے کیا گیا رقبہ معلوم کیجیے۔

$$\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ استعمال کیجیے} \right)$$

مختصر جواب والے سوالات (ٹائپ-ا)

- 25 دائرہ کے ربع کا رقبہ معلوم کیجیے جس کا محیط cm 22 ہے۔ $\pi = \frac{22}{7}$

- 26 10 cm نصف قطر والے دائرہ کے کسی قوس کی لمبائی 5π cm ہوتا اس قوس کے ذریعے مرکز پر بنائے گئے زاویہ کی قدر معلوم کیجیے۔


- 27 اگر ایک مرربع کسی دائرہ کے اندر ہوتا دائرہ اور مرربع کے رقبوں کی نسبت معلوم کیجیے۔

(CBSE-2020) - 28 اس دائرہ کا رقبہ معلوم کیجیے جس کا محیط cm 44 ہے۔

- 29 اگر ایک دائرہ کا محیط کسی مرربع کے احاطے کے مساوی ہوتا ان کے رقبوں کی نسبت معلوم کیجیے۔


- 30 اگر ایک دائرہ کا قطر اور ایک مساوی ضلعی مثلث کے ضلع کی لمبائی مساوی ہوتا ان کے رقبوں کی نسبت کیا ہوگی؟

- 31 دی ہوئی شکل میں O دائرہ کا مرکز ہے۔ اگر سیکٹر OAPB کا رقبہ دائرہ کے رقبہ کا $\frac{5}{18}$ ہوتا x کی قدر معلوم کیجیے۔




-32- دی ہوئی شکل میں AED ایک نصف دائرہ ہے اور ABCD ایک مستطیل ہے۔ شکل کا احاطہ معلوم کیجیے۔


(CBSE-2015)



-33- دی گئی شکل میں نصف قطر 10.5 cm والے دائرہ کا سیکٹر دیا ہوا ہے۔ اس سیکٹر کا احاطہ معلوم کیجیے۔



-34- جاپانی پنچھا 7 چھوٹے ایسے سیشنوں سے بنا ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک سیشن دائرہ کے ایک ایسے سیکٹر کی شکل میں ہوتا ہے جس کا مرکزی زاویہ 15° ہوتا ہے۔ اگر اس سیکٹر کا نصف قطر 24 cm ہے تو اس لیس کی لمبائی معلوم کیجیے جو اس کی پوری باڈی ڈرائی کوڈ ہکنے کے لیے درکار ہوگی؟



- 35- نصف قطر والے ایک دائرہ کے سیکٹر کا احاطہ 25.8cm ہے۔ سیکٹر کا رقبہ معلوم کیجیے۔

- 36- اس دائرہ کا رقبہ معلوم کیجیے جس میں 64cm^2 رقبہ والا مریخ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے راس دائرہ کے محیط کو چھوٹے ہیں۔


- 37- اس دائرہ کا رقبہ معلوم کیجیے جس میں 64cm^2 رقبہ والے مریخ کے اندر اس طرح بنایا گیا ہے کہ دائرہ مریخ کے اضلاع کو چھوٹا ہے۔

مختصر جواب والے سوالات (ٹائپ-II)


- 38- نصف قطر والے ایک دائرہ کے سیکٹر کا رقبہ $54\pi \text{ cm}^2$ ہے۔ نظری قوس کی لمبائی معلوم کیجیے۔

- 39- گھری کی منٹ والی سوئی کی لمبائی 5 cm ہے۔ سوئی کے ذریعہ $6:05 \text{ am}$ سے $6:40 \text{ am}$ تک طے کیا گیا رقبہ معلوم کیجیے۔

- 40- مرکز O والے دائرہ کے وتر AB اور قوس ACB کے ذریعے بننے ہوئے قطعہ دائرہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔ دائرہ کا نصف قطر اور سیکٹر کا زاویہ 90° ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔



- 41- دی گئی شکل میں نصف قطر $OAPB = 3.5\text{ cm}$ والے دائرہ کا سیکٹر ہے اور $\angle AOB = 120^\circ$ اور OAPBO کا احاطہ معلوم کیجیے۔



- m 1500 نصف قطر والے ایک دائرہ نما پارک کے چاروں طرف 2 چوڑائی والا فٹ پاٹھ 20 روپے فی مربع میٹر کی شرح سے بنایا گیا ہے۔ فٹ پاٹھ کو بنانے میں کل کتنا خرچ آئے گا؟ (3.14 = π بیجی) -42
- ایک لڑکا سائیکل اس طرح چلا رہا ہے کہ سائیکل کے پیسے فی منٹ 140 چکر لگاتے ہیں۔ اگر پیسے کا قطر cm 60 ہو تو سائیکل کی رفتار معلوم کیجیے۔ -43
- 4cm نصف قطر اور 30° زاویہ والے چھوٹے سیکٹر AOB اور بڑے سیکٹر AOB کا رقبہ معلوم کیجیے۔ (3.14 = π بیجی) -44
- نصف قطر r والے نصف دائرہ میں بنے بڑے سے بڑے مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے۔ (NCERT-Exempler) -45
- 8m ضلع والے ایک مربع نما پارک میں دو بکریاں مقابل راسوں پر 1.4m لمبی ری سے بندھی ہوئی ہیں۔ ایک گائے 2.1m لمبی ری سے مرکز میں بندھی ہوئی ہے۔ پارک کا وہ رقبہ معلوم کیجیے جس کی چجائی ممکن نہیں ہے۔ -46
- ایک 100° زاویہ والا سیکٹر دائرہ میں سے کاٹا گیا ہے جس کا رقبہ cm^2 70.65 ہے۔ دائرہ کا نصف قطر معلوم کیجیے۔ (3.14 = π بیجی) -47
- 12 گھنٹے والی گھنٹی کی گھنٹہ اور منٹ والی سوئیاں بالترتیب 3.5cm اور 7cm لمبی ہیں۔ ایک دن میں ان دونوں سوئیوں کی نوک کے ذریعے طے کئے گئے فاصلوں کا حاصل جمع معلوم کیجیے۔ ($\frac{22}{7} = \pi$ استعمال کیجیے) -48
- ایک مربع نما پانی کی ٹینکی کے قاعده کا ہر ایک ضلع m 40 ہے۔ اس کے چاروں طرف چار نصف دائری گھاس کے میدان ہیں۔ 1.25 روپے فی مربع میٹر کی شرح سے میدانوں کی گھاس کٹوانے کا خرچ معلوم کیجیے۔ -49
- نصف قطر والے دائرہ کے وتر کی لمبائی 4cm ہے اس وتر کے ذریعے بنائے گئے سیکٹر اور قطعہ دائرہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔ -50
- نصف قطر والے دائرہ کا وتر اس کے مرکز پر 45° کا زاویہ بناتا ہے۔ وتر کے ذریعے کاٹے گئے چھوٹے قطع کا رقبہ معلوم کیجیے۔ -51
- ایک تار کو موڑ کر کسی دائرہ کے مرکز پر 45° کا زاویہ بنانے والی توس کی شکل دی جاسکتی ہے۔ اگر تار کی لمبائی cm 11 ہے تو دائرہ کا نصف قطر معلوم کیجیے۔ -52
- اگر ایک دائرہ کا محیط اس کے قطر سے 16.8 cm 16.8 زیادہ ہو تو دائرہ کا نصف قطر معلوم کیجیے۔ -53
- ایک پنڈولم 45° کے زاویہ پر اہتزاز کر رہا ہے اور 22cm لمبا توس بناتا ہے۔ پنڈولم کی لمبائی معلوم کیجیے۔ -54

طويل جواب والے سوالات

- 55 دو دائرے ایک دوسرے کو باہر سے چھوتے ہیں۔ اگر ان کے رقبوں کا حاصل جمع $130\pi \text{ cm}^2$ ہے اور ان کے مرکزوں کے درمیان 14 cm کا فاصلہ ہو تو ان دائروں کے نصف قطر معلوم کیجیے۔
- 56 ایک دائرة نما پہیہ کا رقبہ 6.16 m^2 ہے۔ پسے کو 572 m کا فاصلہ طے کرنے کے لیے کتنے چکر لگانے ہوں گے؟
- 57 ایک مثلث نما پارک کے اضلاع 35 m , 35 m , 91 m اور 84 m ہیں۔ اس پارک کے تینوں راسوں پر تین گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک گھوڑے کی رسم 14 m لمبی ہے۔ چرے جاسکنے والے رقبہ کی اس رقبہ سے نسبت معلوم کیجیے جسے چنانہ جا سکتا۔
- 58 دو دائرے ایک دوسرے کو داخلی طور پر چھوتے ہیں۔ ان دونوں دائروں کے رقبوں کا حاصل جمع $116\pi \text{ cm}^2$ ان کے مرکز کے درمیان کا فاصلہ 6 cm ہے۔ دونوں دائروں کے نصف قطر معلوم کیجیے۔
- 59 آپ ایک دائری دیوار گھری کا مائل بناتے ہیں اور اس کے ڈائل پر 1 تا 12 اعداد چپاں کرتے ہیں۔ 3 اور 7 کے درمیان مرکز پر بننے والا زاویہ معلوم کیجیے۔ اگر گھری کی منٹ والی سوتی کی لمبائی 21 cm ہے تو اس خط کا رقبہ معلوم کیجیے۔

جوابات اور اشارے

$$36\text{cm} = \frac{22}{7} \times 7 + 14 \quad \pi r + d = -1$$

$$\text{مربع اکائی} = 14 \quad r = 2 \quad \Leftrightarrow \quad 2\pi r = \pi r^2 \quad -2$$

$$\text{مربع کا ضلع} = \text{دائرہ کا قطر} \quad -3$$

$$2r = a$$

$$r = \frac{a}{2}$$

$$\frac{\pi a^2}{4} = \pi \times \frac{a^2}{4} \quad \text{دائرہ کا رقبہ}$$

$$\frac{lr}{2} = \frac{l \times \pi r^2}{2\pi r} = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2 = \text{رقبہ} \quad , \quad \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r = l \quad -4$$

$$7000 = \frac{11 \times 1000 \times 7 \times 100}{2 \times 22 \times 25} = \frac{\text{دیواری}}{\text{محیط}} \quad -5$$

$$r = 14\text{cm} \quad \Leftrightarrow \quad \pi r^2 = 616 \quad -6$$

$$88\text{cm} = 2\pi r = \text{محیط}$$

$$\text{مربع کا ضلع} = \text{دائرہ کا قطر} \quad -7$$

$$r = 3\text{cm}$$

$$9\pi\text{cm}^2 \quad \pi(3)^2 = \pi r^2 = \text{رقبہ}$$

$$50\text{ cm} = \text{قطر} \quad R = 25\text{cm} \quad \Leftrightarrow \quad \pi R^2 = \pi r_1^2 + \pi r_2^2 \quad -8$$

$$220\text{cm} = 2 \times \frac{22}{7} \times 35 = 2\pi r \quad -9$$

$$55\text{cm} = \frac{220}{4} = \text{مربع کا ضلع}$$

$$\text{مرنج کارقبہ} = 3025 \text{cm}^2 = 55 \times 55$$

$$90^\circ = \theta \quad \frac{\theta}{360} \times 2\pi \times 6 = 3\pi \quad \Leftarrow \frac{\theta}{360} \times 2\pi r = l \quad -10$$

$$r_1 = \frac{2}{3} r_2 \Leftarrow \frac{2\pi r_1}{2\pi r_2} = \frac{2}{3} \quad -11$$

$$4:9 = \frac{\frac{4}{9} r_2^2}{r_2^2} = \left(\frac{2}{3} r_2 \right)^2 = \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} = \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} \quad \text{رقبوں کی نسبت}$$

$$2\pi r - r = 37 \quad -12$$

$$r = 7$$

$$2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{cm}$$

$$\frac{\pi d_1}{\pi d_2} = \frac{100}{140} \Rightarrow \frac{2\pi r_1}{2\pi r_2} = \frac{5}{7} \quad -13$$

$$\frac{25}{49} = \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} = \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} \quad \text{رقبوں کی نسبت}$$

$$\frac{210 \times 22 \times 6 \times 6}{360 \times 7} = 66 \text{cm}^2 \quad \left(\begin{matrix} 35 = 11:55 & \text{منٹ} \\ 210^\circ = \theta & 11:20 \end{matrix} \right) \quad -14$$

$$\text{مرنج سینٹی میٹر} = 280 \quad -15$$

$$\text{مرنج سینٹی میٹر} = 124.74 \quad -16$$

$$10.27 \text{ cm}^2 \quad -17$$

$$14:11 \quad (\text{b}) \quad -18$$

$$9\pi \text{cm}^2 \quad -19$$

$$(\text{d}) \quad -20$$

$$14 \text{ cm} \quad (\text{b}) \quad -21$$

$$154 \text{ cm}^2 \quad (\text{a}) \quad -22$$

$$5 \quad (\text{b}) \quad -23$$

$$49\pi \text{m}^2 \quad (\text{a}) \quad -24$$

$$2\pi r = 22 \quad -25$$

$$r = \frac{7}{2}$$

$$9.625 \text{ cm}^2 = \frac{22 \times 7 \times 7}{7 \times 4 \times 2 \times 2} = \frac{\pi r^2}{4} = \text{دائرہ کے مربع کا رقبہ}$$

$$l = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r \quad -26$$

$$5\pi = \frac{\theta}{360} \times 2\pi \times 10$$

$$\theta = 90^\circ$$

اگر مربع کا ضلع 1 اکائی ہو تو فیٹا خورث مسئلہ سے

$$\text{قطر یا وتر} = \sqrt{2} \text{ اکائی}$$

$$\text{مربع کا رقبہ} = 1 \times 1 = 1 \text{ unit square}$$

$$\frac{\pi}{2} = \pi \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \pi r^2 = \text{دائرہ کا رقبہ}$$

$$\frac{11}{7} = \frac{22}{7 \times 2}$$

$$\text{دائرہ کا رقبہ: مربع کا رقبہ} = 11:7$$

$$154 \text{ مربع سینٹی میٹر} \quad -28$$

$$2\pi r = 4 \text{ اکائی} \quad \frac{2\pi r}{4} = \frac{\text{دائرہ کا محیط}}{\text{مربع کا احاطہ}} \quad -29$$

$$r = \frac{7}{11} \text{ اکائی}$$

$$\frac{\pi r^2}{1} = \frac{22}{7} \times \frac{7}{11} \times \frac{7}{11} = \frac{14}{11}$$

$$= 14:11$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \text{مساوي الاضلاع مثلث كارتب} \quad -30$$

$$\pi \left(\frac{a}{2} \right)^2 = \text{دارجہ کارتب}$$

$$\sqrt{3} : \pi = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} a^2}{\pi \frac{a^2}{4}} = \text{نسبت}$$

$$\frac{\theta}{360} \pi r^2 = \pi r^2 \times \frac{5}{18} \quad -31$$

$$\theta = 100^\circ$$

$$20 \text{ cm} + 14 \text{ cm} + 20 \text{ cm} + \pi r \quad -32$$

$$20 + 14 + 20 + \frac{22}{7} \times 7$$

$$= 76 \text{ cm}$$

$$11 \text{ cm} = \frac{60 \times 2 \times 22 \times 105}{360 \times 7 \times 10} = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r = \text{قوس کی لمبائی} \quad -33$$

$$32 \text{ cm} = 10.5 + 10.5 + 11 \quad \text{احاطہ}$$

$$\theta = 7 \times 15 = 105 \quad -34$$

$$l = \frac{\theta}{360} 2\pi r = 44 \text{ cm}$$

$$\text{Length of lace} = l + 2r$$

$$= 44 + 48 = 92 \text{ cm}$$

$$l + 2r = \text{سیکڑ کا احاطہ} \quad -35$$

$$l = 25.8 - 12.6 = 13.2 \text{ cm}$$

$$\frac{\theta}{360} \times 2\pi r = l$$

$$\theta = 120^\circ$$


$$l = \frac{\theta}{360} \pi r^2 = \text{سیکل کا رقبہ}$$

$$41.58 \text{ cm}^2 = \text{سیکل کا رقبہ}$$

$d = \text{Diagonal of square}$ -36
 $d = \text{Side} \sqrt{2} = 8\sqrt{2} \text{ cm}$
 $r = 4\sqrt{2} \text{ cm}$
 $\text{Area} = \pi r^2 = 32\pi \text{ cm}^2$

Diameter of circle = side of square -37
 $\therefore r = 4 \text{ cm}$

$$\text{Area} = 16\pi \text{ cm}^2$$



$$54\pi = \frac{\theta \times \pi \times 36 \times 36}{360^\circ}$$
 -38

$$\theta = 15^\circ$$


$$\frac{\theta}{360} \times 2\pi r = \text{مباری}$$

$$\frac{15}{360} \times 2 \times \pi \times 36 =$$

$$3\pi =$$

$\frac{1650}{36} = \frac{210 \times 22 \times 5 \times 5}{360 \times 7} = \frac{\theta}{360} \times r^2 = \text{رقبہ}$ -39

$45\frac{5}{6} \text{ cm}^2$



$$14.6\text{cm} = \frac{240 \times 2 \times 22 \times 35}{360 \times 7 \times 10} = \text{لہائی} - 41$$

$$14.6 + 3.5 + 3.5 = \text{کی لمبائی OAPBO}$$

$$21.67\text{cm} =$$

$$\text{فٹ پاٹھ کا رقبہ} = \pi (r_1^2 - r_2^2) - 42$$

$$\pi[(1502)^2 - (1500)^2] \times 20 =$$

$$= 3.14 [(1502)^2 - (1500)^2] \times 20$$

$$= ₹ 377051.2$$

$$\text{سائیکل کے پیسے کا محيط} = 2\pi r - 43$$

$$2 \times \frac{22}{7} \times 30 =$$

$$188.57\text{cm} =$$

$$\text{سائیکل کی رفتار} = \frac{18857 \times 140 \times 60}{100 \times 1000}$$

$$15.84 \text{ km/hr} =$$

$$\frac{\theta}{360} \times \pi r^2 = \text{چھوٹے سیکٹر کا رقبہ} - 44$$

$$\frac{30}{360} \times 3.14 \times 4 \times 4 =$$

$$4.18\text{cm}^2 =$$

$$\frac{30}{360} \times 3.14 \times 4 \times 4 = \text{بڑے سیکٹر کا رقبہ}$$

$$46.1\text{cm}^2 =$$

$$\frac{1}{2} \times \text{اونچائی} \times \text{قاعدہ} = \text{مثلث کا رقبہ} - 45$$

$$\frac{1}{2} AB \times OC =$$

$$\frac{1}{2} 2r \times r =$$

$$\text{مربع کی اکاری} =$$

$$\begin{aligned}\text{Grazing Area of Goats} &= 2 \times \text{Area of Quadrants} && -46 \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 1.4 \times 1.4 \times \frac{1}{4} = 3.08m^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Grazing Area of Cow} &= \text{Area of Circle} \\ &= \frac{22}{7} \times 2.1 \times 2.1 = 13.86m^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Area which can't be grazed} &= \text{Area of square} - \text{Total Grazing Area} \\ &= 64 - 16.94 = 43.06m^2\end{aligned}$$

$$\frac{70.65}{100} = \frac{100 \times 314 \times r^2}{360 \times 100} \quad -47$$

$$r^2 = \frac{7065 \times 360}{100 \times 314}$$

$$r = 9\text{cm}$$

$$\begin{aligned}\text{Dist. by min. hand in 1 day} &= 24 \times 2\pi r \\ &= 24 \times 2\pi r\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Dist. by hour hand in 1 day} &= 2 \times 2\pi r \\ &= 2 \times 2\pi r\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Total Dist. travelled by tips of both hands} &= 24 \times 2\pi r + 2 \times 2\pi r \\ &= 1056 + 44 \\ &= 1100\text{cm}\end{aligned}$$

4 نصف دائروں کا مطلب 2 دائرے -49

$$2\pi r^2 = \text{مادوں کا رقبہ}$$

$$2 \times 3.14 \times 20 \times 20 =$$

$$2512 =$$

$$2512 \times 1.25 = \text{کل خرچ}$$

$$\text{₹ } 3140 =$$

$$\text{Length of chord} = \text{Radius} - 50$$

$$\therefore \text{Angle of sector} = 60^\circ$$

$$\begin{aligned}\text{Area of sector} &= \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \\ &= \frac{8\pi}{3} \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\text{Area of seg} = \text{Ar. of sector} - \text{Ar. of triangle}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{8\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} r^2 \\ &= \left(\frac{8\pi}{3} - 4\sqrt{3} \right) \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\text{قطع کا رقبہ} = \text{ مثلث کا رقبہ} - \text{سیکٹر کا رقبہ} - 51$$

$$\begin{aligned}\frac{120}{360} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 - \frac{441}{4} \sqrt{3} &= \\ \left(462 - \frac{441}{4} \sqrt{3} \right) &= \\ \frac{21}{4} (88 - 21\sqrt{3}) \text{ cm}^2 &=\end{aligned}$$

$$\frac{\theta}{360} \times 2\pi r = \text{ لمبائی } - 52$$

$$\frac{45}{360} \frac{2 \times 22 \times r}{7} = 11$$

$$r = 14 \text{ cm}$$

$$2\pi r = 2r + 16.8 - 53$$

$$2 \times \frac{22}{7} r - 2r = \frac{168}{10}$$

$$2r\left(\frac{22}{7} - 1\right) = \frac{168}{10}$$

$$2r\left(\frac{15}{7}\right) = \frac{168}{10} \text{ or } \frac{168 \times 7}{10 \times 2 \times 15} = 3.92 \text{ cm}$$

$$l = \frac{\theta}{360} \times (2\pi r) \quad -54$$

$$22 = \frac{45}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

$$r = 28$$

Length of pendulum = 28cm

$$\pi r_1^2 + \pi r_2^2 = 130\pi \Rightarrow r_1^2 + r_2^2 = 130 \quad -55$$

$$r_1 + r_2 = 14 \quad - (2)$$

مساوات (2) میں سے r_1 کی قدر کھٹے پر

$$2r_2^2 - 28r_2 + 66 = 0$$

$$r_2^2 - 14r_2 + 33 = 0$$

$$r_2 = 11 \text{ cm} \text{ اور } r_1 = 3 \text{ cm}$$

$$r_2 = 3 \text{ cm} \text{ اور } r_1 = 11 \text{ cm}$$

$$\pi r^2 = \frac{616}{100} \Rightarrow r^2 = 1.96 \Rightarrow 1.4 \text{ m} \quad -56$$

$$8.8 \text{ m} = 2 \times \frac{22}{7} \times 1.4 = 2\pi r = \text{مکعب}$$

$$65 = \frac{572}{8.8} = \text{چکروں کی تعداد}$$

Grazing Area of Horses -57

$$= \frac{180^\circ}{360^\circ} \times \frac{22}{7} \times (14)^2 = 308m^2$$

$$\text{Area of triangular park} = \frac{1}{2} \times 35 \times 84 = 1470m^2$$

Area which can't be grazed = 1162m²

Grazing Area: Area can't be grazed

= 308:1162

= 22:83

$$R^2+r^2 = 116 \quad (1) \quad -58$$

$$R-r = 6 \quad (2)$$

Square both sides & solving we get

$$2Rr = 80 \quad (3)$$

Adding & solving (1) and (3)

$$R+r = 14 \quad (4)$$

Solving (2) & (4)

R = 10cm, r = 4cm

مشقی سوالات

دائروں سے متعلق رقبے

کل نمبر: 20

وقت: 1 گھنٹہ

A - سیکشن

اگر سیکٹر کا رقبہ دائرة کے رقبہ کا $\frac{7}{18}$ ہے۔ سیکٹر کے مرکزی زاویہ کی پیمائش کیا ہے؟ - 1

ایک دائرة کا رقبہ 7cm اور 24cm نصف قطر والے دو دائروں کے رقبوں کے مساوی ہے۔ اس دائرة کا قطر ہے: - 2

17cm (d) 25cm (c) 31cm (b) 48cm (a)

اس سیکٹر کا رقبہ کیا ہوگا جس کا احاطہ اس کے نصف قطر (r) کا چار گنا ہے؟ - 3

5 لمبا ای ولے تو سے گھرے ہوئے دائرة کے سیکٹر کا رقبہ $20\pi \text{ cm}^2$ ہے۔ دائرة کا نصف قطر معلوم کیجیے۔ - 4

B - سیکشن

نصف قطر والے دائرة کے سیکٹر کا احاطہ 5.7cm ہے۔ سیکٹر کا رقبہ معلوم کیجیے۔ - 5

گھری کی منٹ والی سوئی کی لمبائی 12cm ہے۔ 6:10pm سے لیکر 6:45pm تک منٹ والی سوئی کے ذریعے طے کئے گئے رقبہ کی تحریک کیجیے۔ - 6

ایک مستطیل نما گتے کے ابعاد $16\text{cm} \times 8\text{cm}$ ہے۔ اس گتے سے مساوی نصف قطر اور زیادہ سے زیادہ رقبہ والے دو دائروں کٹکڑے کاٹ کے ٹکالے گئے ہیں۔ بچے ہوئے گتے کا رقبہ معلوم کیجیے۔ - 7

C - سیکشن

ایک گائے جو رسی سے بندھی ہے اس کی لمبائی کو 12m سے بڑھا کر 19m کر دیا گیا ہے۔ اب یہ گائے کتنا زیادہ رقبہ چڑکتی ہے؟ $\pi = \frac{22}{7}$ (لیجیے) - 8

نصف قطر والے دائرة کا وزیر مراکز کا 60° کا زاویہ بتاتا ہے۔ ظیہری اصغر قطعہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔ - 9

$\pi = \frac{22}{7}$ (لیجیے)

نصف قطر والے دائرة کے اصغر اور اکبر قطعہ کا رقبہ معلوم کیجیے اگر تو س کی لمبائی 42cm ہے۔ - 10

باب 12

سطحی رقبہ اور حجم

(Surface Areas and Volumes)

-1 نصف قطر والے ٹھوس نصف کرہ کا کل سطحی رقبہ ہے۔

- $4\pi r^2$ (D) $3\pi r^2$ (C) $2\pi r^2$ (B) πr^2 (A)

-2 ایک کرہ کا حجم اور کل سطحی رقبہ مساوی ہوں تو کرہ کا نصف قطر ہے۔

- 10 اکائی (A) 11 اکائی (B) 12 اکائی (C) 13 اکائی (D)

-3 مساوی نصف قطر والے اور مساوی اونچائی والے ایک استوانہ، ایک مخروط اور ایک نصف کرہ کے جمੂں کی نسبت ہے۔

- 3:2:1 (D) 3:1:2 (C) 2:1:3 (B) 1:2:3 (A)

-4 نصف قطر والے ایک ٹھوس کرہ کو پھلا کر r اونچائی والے ایک ٹھوس مخروط بنایا گیا ہے۔ مخروط کا نصف قطر ہے۔

- $3r$ (D) $4r$ (C) r (B) $2r$ (A)

-5 10cm اور $18cm$ قطر والے تین ٹھوس کرہوں کو پھلا کر ایک ٹھوس کرہ بنایا گیا ہے۔ نئے کرہ کا قطر ہے۔

- 12cm (D) 18cm (C) 4.5cm (B) 16cm (A)

-6 اندر ہونی اور باہری قطر بالترتیب $4cm$ اور $8cm$ والے ایک دھات کے کرہ نما کھول کو پھلا کر $8cm$ قطر کے ایک مخروط میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اس مخروط کی اونچائی ہے۔

- 18cm (D) 15cm (C) 14cm (B) 12cm (A)

-7 نصف قطر والے ٹھوس نصف کرہ کا حجم معلوم کیجیے۔

-8 دو کروں کے جمੂں کی نسبت $125 : 64$ ہے۔ ان کے سطحی رقبوں کی نسبت معلوم کیجیے۔

-9 ایک استوانہ اور مخروط کے قاعدہ کے نصف قطر مساوی ہیں نیز ان کی اونچائیاں بھی مساوی ہیں۔ استوانہ کے حجم کی مخروط کے حجم سے نسبت معلوم کیجیے۔


- 10- ایک مکعب کا جم cm^3 1331 ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی معلوم کیجیے۔
- 11- دو مخروطوں کی اوپرائیوں کی نسبت 3:1 ہے اور ان کے نصف قطروں کی نسبت 1:3 ہے۔ ان کے جمیں کی نسبت معلوم کیجیے۔
(CBSE-2020)

مختصر جواب والے سوالات (ٹائپ-ا)

- 12- ایک ٹھوس مکعب نما جس کے ابعاد $10\text{ cm} \times 12\text{ cm} \times 16\text{ cm}$ ہیں، میں سے 2 cm کنارے والے کتنے مکعب بنائے جاسکتے ہیں۔
- 13- 729 cm^3 جم والے کعب میں سے زیادہ سے زیادہ کتنی اوپرائی والا مخروط کا نام جاسکتا ہے؟
- 14- 64 cm^3 جم والے دو مکعب کو ملا کر کیک مکعب نما بنایا جاتا ہے۔ اس مکعب نما کا کل سطحی رقبہ معلوم کیجیے۔
- 15- مساوی اساس نصف قطر 8 cm اور اوپرائی 15 cm والے دو مخروطوں کو ان کے اساس کے ساتھ ملا کر آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح بننے والی شکل کا سطحی رقبہ معلوم کیجیے۔
- 16- ایک قائم دائری مخروط کا کل سطحی رقبہ $90\pi\text{ cm}^2$ ہے اگر مخروط کے اساس / قاعدہ کا نصف قطر 5 cm ہے تو مخروط کی اوپرائی معلوم کیجیے۔
- 17- ایک استوانہ جس کی اوپرائی اس کے نصف قطر کے مساوی ہے۔ اس کا جم $\frac{1}{7}\text{ cm}^3$ 25 ہے۔ استوانہ کی اوپرائی معلوم کیجیے۔
(CBSE-2020)
- 18- اس سب سے بڑے قائم دائری مخروط کا جم معلوم کیجیے جسے 4.2 cm کنارے والے مکعب سے کاٹ کر بنایا جاتا ہے۔
- 19- نصف قطر والے نصف کردے سے زیادہ سے زیادہ جم والا کردہ کاٹ کرنے کا لگایا ہے۔ کاٹ کرنے کا لے گئے کردہ کا جم معلوم کیجیے۔

مختصر جواب والے سوالات (ٹائپ-II)


- 20- 10.5 cm نصف قطر والی استوانی ٹینک کی گہرائی معلوم کیجیے اگر اس کا جم $15 \text{ cm} \times 11 \text{ cm} \times 10.5 \text{ cm}$ والے مکعب نما کے جم کے مساوی ہے۔
- 21- دو کروں کا جم $64:27$ کی نسبت میں ہیں۔ ان کے سطحی رقبوں کی نسبت معلوم کیجیے۔
- 22- ایک پڑول ٹینک درمیان سے 28 cm قطر اور 24 cm لمبائی والے استوانہ کی شکل میں ہے۔ اس کے دونوں سرروں پر 28 cm قطر اور 9 cm کی لمبائی کے مخروط طبڑے ہیں۔ اس پڑول ٹینک کا جم معلوم کیجیے۔
- 23- ایک استوانہ، ایک مخروط اور ایک نصف کردہ، تینوں کا قاعدہ (اساس) اور اونچائی مساوی ہے۔ ان کے جوں کی نسبت معلوم کیجیے۔
- 24- ایک ٹھوس استوانہ کی شکل کا ہے۔ جس کے دونوں سرے نصف کری ہیں۔ ٹھوس کی کل لمبائی 20 cm ہے اس تو انہ کا قطر 7 cm ہے۔ ٹھوس کا کل جم معلوم کیجیے۔ (CBSE-2019) $\left(\pi = \frac{22}{7} \right)$
- 25- 120 لمبے رول کا قطر 64 cm ہے۔ اگر یہ رول کھیل کے میدان کو ہموار کرنے میں 500 چکر لگاتا ہے تو 30 پیسے فی مربع میٹر کی شرح سے میدان کو ہموار کرنے کا خرچ معلوم کیجیے۔
- 26- ایک ٹھوس قائم دائری استوانہ کے نصف قطر اور اونچائی کا حاصل جمع 37 cm ہے۔ اگر ٹھوس استوانہ کا سطحی رقبہ کل سطحی رقبہ 1628 مربع سینٹی میٹر ہے تو استوانہ کا جم معلوم کیجیے۔ ($\frac{22}{7} \pi$ استعمال کیجیے)۔
- 27- ایک جوں بیچنے والا اپنے گراہوں کو شکل میں دکھائے گئے گلاسوں میں جوں دیتا ہے۔ استوانہ نما گلاس کا اندر ونی قطر 5 cm تھا لیکن گلاس کے قاعدہ میں ایک کردہ تھا جس سے گلاس کی گنجائش کم ہو جاتی تھی۔ اگر گلاس کی اونچائی 10 cm تھی تو گلاس کی واضح اور اصلی گنجائش معلوم کیجیے۔ (NERT, CBSE- 2019, 2009) ($\pi = 3.14$)



- 28- ایک کھلوکھلے نصف کروی برتن کے اندر ونی اور پر ونی قطر بالترتیب 12cm اور 16cm ہیں۔ اگر 1cm^2 سطحی رقبہ پر رونگ کرانے کا خرچ 500 روپیے ہے تو پرے برتن پر رونگ کرانے کا خرچ معلوم کیجیے۔ ($\pi = 3.14$)
- 29- سریش نے مخروط کی شکل والے 10 خیموں کے لیے کینوس عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیمہ کی اونچائی 24m اور اس کا قطر 14m ہے۔ اگر 2m چوڑے کینوس کی قیمت 40 روپے فی میٹر ہے تو سریش کو کتنی رقم خرچ کرنی ہوگی؟
- 30- 14cm کنارے والے ایک مکعب سے بڑے سے بڑے سائز کا مخروط کاٹ کر علاحدہ کیا گیا ہے۔ بچ ہوئے ٹھوس کا سطحی رقبہ معلوم کیجیے۔

طویل جواب والے سوالات

- 31- لو ہے کے ایک ٹھوس کھبے میں 220cm اونچائی کے استوانہ جس کا قطر 24cm ہے اس کے اوپر 60cm اونچائی کا ایک دوسرا استوانہ جس کا نصف قطر 8cm ہے لگایا گیا ہے۔ اس کھبے کا وزن معلوم کیجیے جبکہ دیا گیا ہے 1cm^3 لو ہے کا وزن تقریباً 8 گرام ہے۔ ($\pi = 3.14$)
- 32- نصف قطر اور 15cm اونچائی والے ایک استوانہ کی شکل کا برتن آس کریم سے پورا بھرا ہوا ہے۔ اس آس کریم کو 10cm بچوں میں بانٹنے کے لیے برابر۔ برابر مخروطوں میں بھرا جانا ہے جن کا اوپری سر انصاف کردہ کی شکل کا ہے۔ اگر مخروطی حصہ کی اونچائی اس کے نصف قطر کی 4 گناہو تو آس کریم والے مخروط کا نصف قطر معلوم کیجیے۔
- 33- شکل میں دکھائے گئے لکڑی کے ایک سامان کو استوانہ کے ایک سرے سے نصف کردا اور دوسرا سرے سے مخروط کو نکال کر بنایا گیا ہے۔ اس سامان کا کل سطحی رقبہ معلوم کیجیے۔



- 34- ایک ٹھوس استوانہ کی اونچائی 15cm اور قطر 7cm ہے۔ نصف قطر 3cm اور اونچائی 4cm والے دو مساوی مخروطی سوراخ کاٹ کر نکالے گئے ہیں۔ ٹھوس کا حجم اور سطحی رقبہ معلوم کیجیے۔

- 35 اگر h , c اور v بالترتیب مخروط کی اونچائی، نمیدہ سطح کا رقبہ اور جم کو ظاہر کرتے ہیں تو ثابت کیجیے کہ

$$C^2 = \frac{3\pi v h^3 + 9v^2}{h^2}$$

- 36 ایک ٹھوس لکڑی کا کھلونا نصف کردہ کی شکل میں ہے جس کے اوپر مساوی نصف قطر والا ایک مخروط کھا ہوا ہے۔ نصف کردہ کا

نصف قطر 3.5 cm ہے اور اس کھلونے کو بنانے میں استعمال کی گئی لکڑی کا جم $\frac{5}{6} \text{ cm}^3$ 166 ہے۔ کھلونے کی اونچائی


معلوم کیجیے۔ کھلونے کے نصف کروی حصہ پر 10 روپے فی مریع سینٹی میٹر کی شرح سے رنگ کرنے کا خرچ بھی معلوم کیجیے۔

(CBSE-2015)

- 37 دی گئی شکل دھات کے ایک ٹھوس مکعب نما کی ہے۔ جس کے ابعاد $15 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ ہیں۔ اس میں سے

7 قطر والا ایک استوانہ کاٹ کر نکال دیا گیا ہے۔ باقی بچھے ہوئے ٹھوس کا کل سطحی رقبہ معلوم کیجیے۔ ($\frac{22}{7} = \pi$ لجیے)

(CBSE-2015)



- 38 ایک ٹھوس کھلونا استوانہ نما ہے جس کا ایک سر انصاف کردہ اور دوسرا سر اخڑو طبقہ نما ہے۔ اس کا قطر 4.2 cm ہے۔ استوانہ نما اور

خڑو طبقہ کی اونچائی بالترتیب 12 cm اور 7 cm ہے کھلونے کا جم معلوم کیجیے۔

- 39 ایک ٹینٹ 3 میٹر کی اونچائی تک استوانہ نما اور اس کے اوپر مخروط نما ہے۔ ٹینٹ کی کل اونچائی 13.5 m ہے اور قاعدہ کا

نصف قطر 14 m ہے۔ 80 روپے فی مریع میٹر کی درسے ٹینٹ کو بنانے میں لگے کپڑے کی کل قیمت معلوم کیجیے۔

- 40 ایک 14 cm لمبے کھوکھے استوانہ کے باہری اور اندر ونی کروی سطحوں کے رقبوں کا فرق 88 cm^2 ہے۔ اگر استوانہ کو بنانے

میں لگی دھات کا جم 176 cm^3 ہو تو استوانہ کا باہری اور اندر ونی قطر معلوم کیجیے۔

- 41 ایک ٹھوس مخروط کی شکل کا ہے جس کا نچلا حصہ نصف کروی ہے۔ دونوں کا نصف قطر 3.5 cm ہے۔ ٹھوس کی کل اونچائی

9.5 cm ہے۔ ٹھوس کا جم معلوم کیجیے۔

- 42 کنارے والے لکڑی کے ٹھوس کعب میں نصف کردی خلا اس طرح نکالی گئی ہے کہ نصف کردہ کا قطر کعب کے کنارے

کے مساوی ہے۔ باقی بچھے ہوئے ٹھوس کا جم معلوم کیجیے۔

جوابات

$$3\pi r^2 \quad (\text{C}) \quad -1$$

$$\sqrt{3} \quad (\text{D}) \quad -2$$

$$3 : 1 : 2 \quad (\text{C}) \quad -3$$

$$2r \quad (\text{A}) \quad -4$$

$$12\text{cm} \quad (\text{D}) \quad -5$$

$$14\text{cm} \quad (\text{B}) \quad -6$$

$$462\text{cm}^2 \quad -7$$

$$16 : 25 \quad -8$$

$$3 : 1 \quad -9$$

$$11\text{cm} \quad -10$$

$$3:1 \quad -11$$

$$240 = \frac{16 \times 12 \times 10}{2 \times 2 \times 2} \quad \text{مکعب کی تعداد} \quad -12$$

$$9\text{cm} = \sqrt[3]{729} \quad \text{مکعب کا ضلع} \quad -13$$

$$9\text{cm} = \sqrt[3]{512} \quad \text{سب سے بڑے مخروط کی اونچائی} = -11$$


$$4\text{cm} = \sqrt[3]{64} \quad \text{مکعب کا ضلع} \quad -14$$

نئے مکعب نما کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی بالترتیب 4cm, 8cm, 4cm اور 4cm ہیں۔

$$\text{مکعب نما کل سطحی رقبہ} = 2[8 \times 4 + 4 \times 4 + 4 \times 8]$$

$$160\text{cm}^2 =$$

$$-15$$



$$l = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$l = 17$$

$$2\pi rl = \text{قبہ}$$

$$854.85 \text{ cm}^2 =$$

$$\pi r(l+r) = 90r \quad -16$$

$$l = 13 \text{ cm}$$

$$h = \sqrt{l^2 - r^2}$$

$$h = 12 \text{ cm}$$

مانا استوانہ کی اونچائی اور نصف قطر $x \text{ cm}$ ہیں۔ - 17

$$\text{استوانہ کا جمجمہ} = \frac{176}{7} \text{ cm}^3$$

$$\frac{176}{7} = \frac{22}{7} \times x^2 \times x$$

$$x^3 = 8$$

$$x = 2 \text{ cm}$$

$$d = 4.2 \text{ cm}, r = 2.1 \text{ cm} \quad -18$$

$$h = 4.2 \text{ cm}$$

$$\text{Vol. of cone} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$\text{Vol. of cone} = 19.4 \text{ cm}^3 \text{ (approx)}$$

$$\text{radius of sphere} = 3 \text{ cm} \quad -19$$

$$\text{Vol. of sphere} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$= 113.14 \text{ cm}^3$$

استوانہ نمائشی کا جمجمہ = مستطیل نمائشی کا جمجمہ - 20

$$15 \times 11 \times 10.5 = \frac{22}{7} \times (10.5)^2 \times h$$

$$5 \text{ cm} = h$$

$$\frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{64}{27} \quad -21$$


$$\Rightarrow R^3 : r^3 = 64 : 27$$

$$R:r = 4:3$$


$$4\pi R^2 : 4\pi r^2 = R^2 : r^2$$

$$(R:r)^2 = (4:3)^2 = 16:9$$

پینک کا جم = استوانہ نما حصہ کا جم + مخروط نما حصہ کا جم -22



$$18480 \text{ cm}^3 =$$




Radius = r, height = r

Vol. cyl: Vol. cone: Vol. h. sph.

$$\pi r^3 : \frac{1}{3}\pi r^3 : \frac{2}{3}\pi r^3$$

$$1 : \frac{1}{3} : \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 3 : 1 : 2$$



$$\begin{aligned} \text{استوانہ کی اونچائی} &= 13\text{cm} = 20 - 3.5 - 3.5 = -24 \\ \text{ٹھوڑ کا جم} &= \text{استوانہ نما حصہ کا جم} + 2 \times \text{نصف کری حصہ کا جم} \\ 2 \times \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} (3.5)^3 + \frac{22}{7} \times (3.5)^2 \times 3 &= \\ 680 \frac{1}{6} \text{ cm}^3 &= \end{aligned}$$

$$r = 32\text{cm} \quad -25$$

$$h = 120\text{cm}$$

Area covered in 1 revolution

= C.S.A. of roller

$$= 2\pi rh$$

$$= 24137.14\text{cm}^2$$

Area covered in 500 rev.

$$= 1206.86\text{m}^2$$

Cost of levelling = Area \times Rate

$$= ₹ 1206.86 \times 0.3$$

$$= ₹ 362.06/-$$

$$\pi + h = 37 \quad -26$$

$$2\pi r(r+h) = 1628$$

$$r = 7\text{cm}$$

$$h = 30\text{cm}$$

$$\text{Vol.} = \pi r^2 h$$

$$\text{Vol.} = 4620 \text{ cm}^3$$

$$196.25 \text{ cm}^3 = 3.14 \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 \times 10 = \text{ واضح گنجائش} \quad -27$$

اصلی گنجائش = نصف کری حصہ کا جم — استوانہ نما حصہ کا جم

$$196.25 - \frac{2}{3} \times 3.14 \times \left(\frac{5}{2}\right)^3 =$$

$$163.54 \text{cm}^3 =$$

$$r = 6\text{cm}, R = 8\text{cm} \quad -28$$

$$\text{S.A. of vessel} = 2\pi R^2 + 2\pi r^2 + \pi(R^2 - r^2)$$

$$= \pi \times 228 = 715.92 \text{ cm}^2$$

$$\text{Total Cost} = \text{S.A.} \times \text{Rate}$$

$$= ₹ 3579.60/-$$

$$r = 7\text{m}, h = 24\text{m} \quad -29$$

$$l = 25\text{m}$$

$$\text{S.A of tent} = \pi rl$$

$$= 550\text{m}^2$$

$$\text{Area of 10 tents} = 5500\text{m}^2$$

$$\text{Total Cost} = \text{Area} \times \text{Rate}$$

$$= \text{Area} \times \frac{₹40}{2}$$

$$= ₹ 1,10,000/-$$

$$r = 7\text{cm} \quad h = 14\text{cm} \quad -30$$


$$l = \sqrt{245} = 15.65\text{cm}$$

$$\text{S.A of remaining solid}$$

$$= \text{T.S.A of cube} + \text{C.S.A} - \text{Area of circle cone}$$

$$= 6a^2 + \pi rl - \pi r^2$$

$$= 1366.3\text{cm}^2$$



$$3.14 \times (12)^2 \times 220 + 3.14 \times (8)^2 \times 60 = \text{ٹھوس کھبے کا جم} - 31$$

$$111532.8 \text{ cm}^3 =$$

$$111532.8 \times \frac{8}{1000} \text{ kg} = \text{کھبے کا وزن}$$

$$892.2624 \text{ kg} =$$

ماندھ وطنما حصہ کا نصف قطر $r \text{ cm}$ ہے۔ 32

اس لیے مندھ وطنما حصہ کی اونچائی $4r \text{ cm}$ ہوگی

سوال کے مطابق

$$\text{استوانہ نمبر تن کا جم} = 10 \times \text{آئس کریم کے مندھ وطنوں کا جم}$$

$$10 \times \left[\frac{1}{3} \pi r^2 \times 4r + \frac{2}{3} \pi r^3 \right] = \pi (6)^2 \times 15$$

$$r = 3 \text{ cm}$$

$$r = 3 \text{ cm} - 33$$

$$\text{S.A of article} = \text{C.S.A cyl.} + \text{C.S.A h. sphe} + \text{C.S.A cone}$$

$$\text{S.A} = 2\pi r H + 2\pi r^2 + \pi r l$$

$$= \pi r (2H + 2r + l)$$

$$= \pi 3 (20 + 6 + \sqrt{58}) \text{ cm}^2$$

$$\text{S.A of solid} \Rightarrow \text{C.S.A cyl.} + 2 \text{ area of Ring} + 2 \text{ C.S.A cone} - 34$$

$$\Rightarrow 2\pi \left(\frac{7}{2} \times 15 + 6.5 \times 0.5 + 15 \right)$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times 70.75 = \frac{3113}{7}$$

$$\Rightarrow 444.7 \text{ cm}^2 (\text{approx})$$

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h \quad -35$$

$$R^2 = \frac{3V}{rh} \quad (1)$$

$$C = \pi R l$$


$$C^2 = \pi^2 R^2 l^2$$

$$C^2 = \pi^2 R^2 (h^2 + R^2)$$

$$C^2 = \pi^2 \frac{3V}{rh} (h^2 + \frac{3V}{\pi h})$$

$$C^2 = \frac{3\pi^2 V (\pi h^3 + 3V)}{\pi^2 h^2}$$

$$C^2 = \frac{3\pi V h^3 + 9V^2}{h^2}$$



$$\frac{1001}{6} \text{ cm}^3 = \text{چھلوٹ کا جمیلہ} \quad -36$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{7}{2}\right)^3 + \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{7}{2}\right)^2 \times h = \frac{1001}{6}$$

$$h = 6 \text{ cm}$$

$$2 \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \text{چھلوٹ کے نصف کری حصہ کا رقبہ}$$

$$= 77 \text{ cm}^2$$

رُنگ کرنے کا خرچ = ₹ 770 = 77 \times 10 =

$$\text{باقی بچھوٹوں کا سطحی رقبہ} \quad -37$$

2 دائروں کا رقبہ - استوانہ کا کردی سطح کا رقبہ + مکعب نمایاں کا سطحی رقبہ

$$2(15 \times 10 + 10 \times 5 + 15 \times 5) + 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times 5 - 2 \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{7}{2}\right)^2 =$$

$$583 \text{ cm}^2 =$$

$$\text{کھلو} \neq \text{نما حجم} + \text{نصف کری حصر کا حجم} + \text{مخروط نما حصہ کا حجم} \quad -38$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times (2.1)^3 + \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times (2.1)^2 \times 7 + \frac{22}{7} \times (2.1)^2 \times 12 =$$

$$218.064 \text{ cm}^3 =$$

$$17.5 \text{ cm} = \sqrt{(14)^2 + (10.5)^2} = \text{ترچھی اونچائی} \quad -39$$

$$1034 \text{ m}^2 = 2 \times \frac{22}{7} \times 3 \times 14 + \frac{22}{7} \times 14 \times 17.5 = \text{ٹینٹ کا سطحی رقبہ}$$

$$\text{پکڑے کی قیمت} = 1034 \times 80 =$$

$$\text{مانا کھوکھلے استوانہ کا اندر ونی اور باہری نصف قطر بالترتیب } r \text{ اور } R \text{ ہیں۔} \quad -40$$

$$\text{باہری اور اندر ونی کروی سطحوں کے رقبوں کا فرق} = 88 \text{ cm}^2$$

$$88 = 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times [R - r]$$

$$(1) —— 1 = R - r$$

$$\text{کھوکھلے استوانہ کا حجم} = 176 \text{ cm}^3$$

$$176 = \frac{22}{7} \times 14 \times [R^2 - r^2]$$

$$4 = R^2 - r^2$$

$$4 = (R + r)(R - r)$$

$$(2) —— 4 = R + r$$

$$\text{مساویات (1) اور (2) کو حل کرنے پر}$$

$$r = 1.5 \text{ cm}, R = 2.5 \text{ cm}$$

$$\text{اس لیے باہری اور اندر ونی قطر بالترتیب } 5 \text{ cm اور } 3 \text{ cm ہیں۔}$$

$$\text{مخروط کی اونچائی} = 6 \text{ cm} = 9.5 - 3.5 \quad -41$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times (3.5)^3 + \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times (3.5)^2 \times 6 = \text{ٹھوس کا حجم}$$

$$166.83 \text{ cm}^3 =$$

$$10.5\text{cm} = \frac{21}{2} = \text{نصف کر کا نصف قطر} \quad -42$$

$$21)^3 - \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times (10.5)^3 = \text{باقی بچھے ہوئے ٹھوس کا حجم}$$

$$6835.5\text{cm}^3 =$$

مشقی سوالات

سطحی رقبے اور حجم

وقت: 1 گھنٹہ

کل نمبر: 20

سیکشن - A

- 1 - نصف قطر $r=2$ والے نصف کردہ کا کل سطحی رقبہ ہو گا۔

- 2 - اس سب سے بڑے قائم دائری مخروط کا نصف قطر کیا ہو گا جسے 4.2 cm کنارے والے مکعب سے کاٹ کر نکالا گیا ہے۔

8.4cm (b) 4.2cm (a)

1.05cm (d) 4.1cm (c)

- 3 - ایک مکعب کا حجم 1 لیٹر ہے۔ مکعب کے ضلع کی لمبائی معلوم کیجیے۔

- 4 - دو مکعبوں کے حجم $27:125$ کی نسبت میں ہیں۔ ان کے سطحی رقبوں کی نسبت ہو گی:

سیکشن - B

- 5 - ایک مکعب اور ایک کردہ سطحی رقبے مساوی ہیں۔ کردہ اور مکعب کے جھوٹ کی نسبت معلوم کیجیے۔

- 6 - دو مکعبوں میں سے ہر ایک کے ضلع کی لمبائی 8 cm ہے۔ ان دونوں مکعبوں کو سرے وار جوڑ دیا گیا ہے۔ بننے والی شکل کا سطحی رقبہ معلوم کیجیے۔

- 7 - ایک نصف کردہ سطح کا حجم 2156 cm^3 ہے۔ اس کی خمیدہ سطح کا رقبہ معلوم کیجیے۔

سیکشن - C

- 8 - سرکس کا ٹینٹ ایک ایسے استوانہ کی شکل کا ہے جس کی چھت مخروط نما ہے۔ اگر مشترک قطر 56m ، استوانی حصہ کی اوپرائی 6m اور زمین سے چھت کی اوپرائی 30m ہے تو ٹینٹ کو بنانے میں استعمال کیے گئے کیوس کا رقبہ معلوم کیجیے۔

- 9 - ایک دھاتی استوانہ کا نصف قطر 3cm اور اوپرائی 5cm ہے۔ اس کا وزن کم کرنے کے لیے اس میں $\frac{3}{2}\text{ cm}$ نصف قطر

وala aur $\frac{8}{9}$ cm گہرائخوڑی سوراخ بنایا گیا ہے۔ استوانہ میں پچی ہوئی دھات کے جم کی خروڑی کی شکل میں باہر نکالی گئی دھات کے جم سے نسبت معلوم کیجیے۔


سیکشن - D

10- ایک سجاوٹی بلاک مکعب کو نصف کردہ سے جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ بلاک کا قاعدہ (اساس) 6cm ضلع والا ایک مکعب ہے۔ اور نصف کردہ اس کے بالائی حصہ پر نصب ہے جس کا قطر 4cm ہے۔ 2.5₹ فی مرلے سینٹی میٹر کی شرح سے اس بلاک پر رغمن کرانے کا خرچ معلوم کیجیے۔

باب 13

شماریات (Statistics)

اہم نکات:



\bar{x} (Mean) - 1

غیر مرتب اعداد و شمار کے لیے (a)

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \bar{x}$$

$$\frac{\text{مشہدؤں کا حاصل جمع}}{\text{مشہدؤں کی تعداد}} = \bar{x}$$

مرتب اعداد و شمار کے لیے (b)

اگر محاسبہ چھوٹی (آسان) ہوں تو ہم راست طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ (i)

$$\frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \bar{x}$$

اگر تحسیب مشکل ہو (مشابدے بڑے ہوں) تو ہم Assumed mean/ short cut کا طریقہ یا قدم انحرافی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ (ii)
 (Step Deviation Method)

کا طریقہ Assumed Mean Method/ Short cut

$$\text{مانا} \rightarrow \bar{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i}$$

$$d_i = x_i - a$$

قدم انحرافی کا طریقہ (Step Deviation Method)

$$\bar{x} = a + \frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i} \times h$$

$$\text{کلاس کا سائز} \leftarrow h \cdot u_i = \frac{d_i}{h}$$

وسطانیہ (Median) -2

غیر مرتب اعداد و شمار کے لیے سب سے پہلے اعداد کو بڑھتی ہوئی ترتیب میں لگائیں اس کے بعد اعداد کی تعداد (n) معلوم کریں، (a)

$$\text{اگر } n \text{ ایک طاق عدد ہے تو وسطانیہ} = \frac{\left(\frac{n+1}{2} \right)^{th} \text{ مشابدہ}}{\text{مشابدہ}}$$

$$\text{اگر } n \text{ ایک جفت عدد ہے تو وسطانیہ} = \frac{\left(\frac{n}{2} \right)^{th} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right)^{th} \text{ مشابدہ}}{2}$$

مرتب اعداد و شمار کے لیے (b)

$$l + \frac{\left(\frac{n}{2} - c.f \right)}{f} \times h = \text{وسطانیہ}$$

مود (Mode) مرتب اعداد و شمارکے لیے -3

$$l + \frac{(f_i - f_o)}{(2f_i - f_o - f_2)} \times h = \text{مود}$$

غیر مرتب اعداد و شمارکے لیے مود وہ مشاہدہ ہے جو سب سے زیادہ بار آئے۔

نوٹ:

درمیانہ، وسطانیہ اور مود کے درمیان تعلق (1)

$$\text{مود} = (\text{درمیانہ}) 2 - (\text{وسطانیہ}) 3$$

اگر کلاس وقفہ لگاتار بنانے کے لیے وقفہ کی خلی حد میں سے وقوف کے درمیان کے فرق کا نصف گھٹاتے ہیں اور اپری حد میں وقوف کے درمیان کے فرق کا نصف جوڑ دیتے ہیں۔ (2)

$$\text{کلاس مارک} = \frac{\text{وقفہ کی اپری حد} + \text{وقفہ کی خلی حد}}{2} \quad (3)$$

$$\text{کلاس سائز} = \text{خلی حد} - \text{اپری حد} \quad (4)$$

$$\text{مود کلاس} = \text{جس وقفہ کا تعداد سب سے زیادہ ہو۔} \quad (5)$$

$$\text{وسطانیہ کلاس} = \text{وہ وقفہ جس کی مجموعی تعداد (c.f) } \frac{n}{2} \text{ سے بڑی یا تقریباً آس پاس ہو۔} \quad (6)$$

اگر \bar{x} کا درمیانہ x_n, x_{n-1}, x_2, x_1 ہو تو

\bar{x} کا درمیانہ $kx_n, kx_{n-1}, kx_2, kx_1$ ہو گا۔ (a)

$\frac{\bar{x}}{k}$ کا درمیانہ $\frac{x_n}{k}, \frac{x_{n-1}}{k}, \frac{x_2}{k}, \frac{x_1}{k}$ ہو گا۔ (b)

$x_n + k, x_{n-1} + k, x_2 + k, x_1 + k$ کا درمیانہ $\bar{x} + k$ ہو گا۔ (c)

$x_n - k, x_{n-1} - k, x_2 - k, x_1 - k$ کا درمیانہ $\bar{x} - k$ ہو گا۔ (d)

اگر n_1 مشاہدوں کا درمیانہ \bar{x}_1 ہو اور n_2 مشاہدوں کا درمیانہ \bar{x}_2 ہو تو ان کا

$$\frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2} = \text{مشترک درمیانہ}$$

$$\sum xi = n \bar{x} \quad -10$$

دیئے ہوئے اعداد و تمارکی وسعت = سب سے بڑا مشاہدہ — سب سے چھوٹا مشاہدہ $\quad -11$

مختصر ترین جواب والے سوالات

پہلے 12 مفرد اعداد کا درمیانہ معلوم کیجیے۔ $\quad -1$

20 اعداد کا درمیانہ 18 ہے۔ اگر ہر ایک عدد میں 2 جمع کر دیا جائے تو نیا درمیانہ معلوم کیجیے۔ $\quad -2$

5 مشاہدات 3,5,7, x ,11 کا درمیانہ 7 ہے۔ x کی قدر معلوم کیجیے۔ $\quad -3$

پہلے 10 فطری اعداد کا وسطانیہ معلوم کیجیے۔ $\quad -4$

x کی قدر معلوم کیجیے اگر دیے گئے مشاہدات کا وسطانیہ 27.5 ہے۔ $\quad -5$

$$24,25,26,x+2,x+3,30,33,37$$

مشاہدات 5,7,8,5,7,6,9,5,10,6 کا مودہ معلوم کیجیے۔ $\quad -6$

مشاہدات کا درمیانہ اور مودہ بالترتیب 24 اور 12 ہے۔ وسطانیہ معلوم کیجیے۔ $\quad -7$

کلاس 29.5 – 19.5 کا کلاس مارک معلوم کیجیے۔ $\quad -8$

ایک سے زیادہ انتخاب والے سوالات $\quad -9$

اگر کسی تعددی جدول کے کلاس وقفہ 10، 20، 30، 40، 50 ہوں تو کلاس سائز (i)

5.5 (d) 11 (c) 10 (b) 9 (a)

اگر کسی تعددی جدول کے وقفہ 10، 20، 30، 40، 50 ہوں تو وقفہ 30 کی (ii)

اوپری حد

20.5 (d) 30.5 (c) 30 (b) 21 (a)

مندرجہ ذیل تعدادی جدول میں وسطانیہ وقفہ کی اوپری حد

(iii)

کلاس	0 – 5	6 – 11	12 – 17	18 – 23	24 – 29
تعداد	13	10	15	8	11

18.5 (d) 18 (c) 17.5 (b) 17 (a)

کسی فیکٹری کے مزدوروں کی یومیہ آمد نی مندرجہ ذیل ہیں۔

(iv)

یومیہ آمد نی (روپیوں میں)	121 – 126	127 – 132	133 – 138	139 – 144	145 – 150
مزدوروں کی تعداد	5	27	20	18	12

موڈل کلاس کی پچھی حد

₹133 (d) ₹126.5 (c) ₹126 (b) ₹127 (a)

مندرجہ ذیل جدول کے لیے

(v)

کلاس	0 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
تعداد	10	15	12	20	9

وسطانیہ کلاس اور موڈل کلاس کی پچھی حدوں کا حاصل جمع

35 (d) 30 (c) 25 (b) 15 (a)

کسی تعدادی جدول کا وسطانیہ اور موڈل اترتیب 26 اور 29 ہیں۔ اس کا درمیانہ ہو گا۔

(vi)

25.8 (d) 28.4 (c) 24.5 (b) 27.5 (a)

(CBSE-2020) وقوف 25-10 اور 55-35 کے کلاس مارک معلوم کیجیے۔ - 10

مختصر جواب والے سوالات (Type-I)

11 مشاہدات کا درمیانہ 50 ہے۔ ابتدائی 6 مشاہدات کا درمیانہ 49 اور آخری 6 مشاہدات کا درمیانہ 52 ہے۔ چھٹا مشاہدہ

- 11

معلوم کیجیے۔

مندرجہ ذیل بیان کا درمیانہ معلوم کیجیے۔

- 12

x	12	16	20	24	28	32
f	5	7	8	5	3	2

مندرجہ ذیل بٹاؤ کا وسطانیہ معلوم کیجیے۔

-13

x	10	12	14	16	18	20
f	3	5	6	4	4	3

مندرجہ ذیل بٹاؤ کا موزع معلوم کیجیے۔

-14

کلاس	0 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
تعداد	2	7	8	10	8	5

مندرجہ ذیل بٹاؤ کو تعدادی بٹاؤ میں تبدیل کیجیے۔

-15

طالبہ کی تعداد	نمبر
0	20 سے کم
4	کم سے 30
16	کم سے 40
30	کم سے 50
46	کم سے 60
66	کم سے 70
82	کم سے 80
92	کم سے 90
100	کم سے 100

مندرجہ ذیل بٹاؤ کو ”سے کم“، مجموعی تعدادی بٹاؤ میں تبدیل کیجیے۔

-16

نمبر	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50
طالبہ کی تعداد	7	9	6	8	10

مندرجہ ذیل بٹاؤ کا موزع معلوم کیجیے۔

-17

کلاس وقفہ	50-55	45-50	40-45	35-40	30-35	25-30	تعداد
	14	38	42	50	34	25	

مندرجہ ذیل بٹاؤ کا وسطانیہ معلوم کیجیے۔ (CBSE- 2011)

-18

x	10	20	30	40	50
f	2	3	2	3	1

-19 کسی تعدادی جدول کا درمیانہ (\bar{x}) 45 ہے۔ اگر $\sum fix_i = 20$ ہو تو $\sum f_i$ معلوم کیجیے۔ (CBSE- 2011)

-20 مندرجہ ذیل تعدادی جدول کا درمیانہ معلوم کیجیے۔ (CBSE- 2020)

کلاس وقفہ	3-5	5-7	7-9	9-11	11-13
تعداد	5	10	7	8	

-21 مندرجہ ذیل بٹاؤ کا موزع معلوم کیجیے۔ (CBSE-2020)

کلاس وقفہ	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120	120-140
تعداد	6	8	10	12	6	5	3

-22 مندرجہ ذیل تعدادی جدول کا موزع معلوم کیجیے۔ (CBSE-2020)

اشیاء کا سائز (cm میں)	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28
تعداد	5	7	9	17	12	10	6

مختصر جواب والے سوالات (Type-II-Solutions)

-23 مندرجہ ذیل بٹاؤ کا درمیانہ 54 ہے۔ p کی قدر معلوم کیجیے۔

کلاس	80 – 100	60 – 80	40 – 60	20 – 40	0 – 20	کلاس
تعداد	13	9	10	p	7	تعداد

-24 مندرجہ ذیل بٹاؤ کا وسطانیہ معلوم کیجیے۔

کلاس وقفہ	50 – 60	40 – 50	30 – 40	20 – 30	10 – 20	0 – 10	کلاس
تعداد	2	4	6	10	3	5	تعداد

-25 مندرجہ ذیل بٹاؤ کا وسطانیہ 24 ہے۔ نامعلوم x کی قدر معلوم کیجیے۔

عمر (برسون میں)	40 – 50	30 – 40	20 – 30	10 – 20	0 – 10	عمر (برسون میں)
افراد کی تعداد	7	18	x	25	5	افراد کی تعداد

مندرجہ ذیل بٹاؤ کا وسطانیہ معلوم کیجیے۔

-26

نمبر	کم سے 10	کم سے 20	کم سے 30	کم سے 40	کم سے 50	کم سے 60
طلباً کی تعداد	0	12	20	28	33	40

مندرجہ ذیل اعداد و شمار کا درمیانہ وزن معلوم کیجیے۔

-27

وزن(Kg میں)	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60
طلباً کی تعداد	2	4	10	15	6	3

زیادہ وزن کس طرح نقصان دہ ہوتا ہے؟

مندرجہ ذیل بٹاؤ کے لیے مودع معلوم کیجیے۔

-28

(اوپھائی cm میں)	30 سے زیادہ	40 سے زیادہ	50 سے زیادہ	60 سے زیادہ	70 سے زیادہ	80 سے زیادہ
پودوں کی تعداد	34	30	27	19	8	2

مندرجہ ذیل بٹاؤ کسی امتحان میں 100 طلباء کے ذریعے حاصل کیے گئے نمبروں کو ظاہر کرتا ہے۔

-29

حاصل کئے گئے نمبر	30 – 3	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65
طلباً کی تعداد	14	16	28	23	18	8	3

نمبروں کا درمیانہ معلوم کیجیے۔ (CBSE- 2019)

مندرجہ ذیل بٹاؤ ایک محلے کے بچوں کے جیب خرچ کو ظاہر کرتا ہے۔ درمیانہ جیب خرچ 18 روپے ہے۔ نامعلوم تعداد کا معلوم کیجیے۔ (CBSE-2018)

-30

یومیہ جیب خرچ (روپیوں میں)	11 – 13	13 – 15	15 – 17	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25
بچوں کی تعداد	3	6	9	13	K	5	4

مندرجہ ذیل تعدادی جدول کا مowitz معلوم کیجیے۔

-31

کلاس وقفہ	0 – 20	20 – 40	40 – 60	60 – 80	80 – 100
طلباء کی تعداد	15	18	21	29	17

اوپر دیئے گئے جدول کا درمیانہ 53 ہے۔ وسطانیہ بھی معلوم کیجیے۔

طویل جواب والے سوالات

مندرجہ ذیل بٹاؤ کا درمیانہ 53 ہے۔ اور f_1 کی قدر معلوم کیجیے۔

-32

کلاس وقفہ	0 – 20	20 – 40	40 – 60	60 – 80	80 – 100	کل
تعداد	15	f_1	21	f_2	17	100

مندرجہ ذیل بٹاؤ کا وسطانیہ 28.5 ہے۔ اور y کی قدر معلوم کیجیے۔

-33

کلاس وقفہ	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	کل
تعداد	5	8	x	15	y	5	60

مندرجہ ذیل بٹاؤ کا وسطانیہ 35 ہے۔ اور b کی قدر معلوم کیجیے۔

-34

کلاس وقفہ	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	کل
تعداد	10	20	a	40	b	25	15	170

مندرجہ ذیل بٹاؤ کا درمیانہ، وسطانیہ اور مowitz معلوم کیجیے۔

-35

کلاس وقفہ	11 – 15	16 – 20	21 – 25	26 – 30	31 – 35	36 – 40	41 – 45	46 – 50
تعداد	2	3	6	7	14	12	4	2

ایک شہر میں 60 نوں کے لیے بارش کے ریکارڈ ذیل کے جدول میں دیئے گئے ہیں۔ بارش کا درمیانہ معلوم کیجیے۔

-36

بارش (cm میں)	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60
نوں کی تعداد	16	10	8	15	5	6

”سے زیادہ“ اوجائیو کا استعمال کر کے بارش کا وسطانیہ معلوم کیجیے۔ (i)

قدم انحراف (Step Deviation) طریقہ کا استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل بیان کا درمیانہ معلوم کیجیے۔

-37

یومیہ خرچ	100 – 150	150 – 200	200 – 250	250 – 300	300 – 350
گھروں کی تعداد	4	5	12	2	2

ذیل میں دیا گیا بیان ایک کلاس کے 100 طلباء کے نمبروں کو ظاہر کرتا ہے۔

-38

طلباء کی تعداد	نمبر
4	0 – 5
6	5 – 10
10	10 – 15
10	15 – 20
25	20 – 25
22	25 – 30
18	30 – 35
5	35 – 40

ذکورہ بالا بیان کے نمبروں کا درمیانہ معلوم کیجیے۔

ایک صنعتی علاقے میں 30 کارخانوں کی سالانہ منافع ذیل میں دیا گیا ہے۔ ان اعداد و شمار کا وسطانیہ معلوم کیجیے۔

-39

فیکٹریوں کی تعداد	منافع (لاکھوں میں)
30	5 لاکھ یا اس سے زیادہ
28	10 لاکھ یا اس سے زیادہ
16	15 لاکھ یا اس سے زیادہ
14	20 لاکھ یا اس سے زیادہ
10	25 لاکھ یا اس سے زیادہ
7	30 لاکھ یا اس سے زیادہ
3	35 لاکھ یا اس سے زیادہ
0	40 لاکھ یا اس سے زیادہ

درج ذیل بٹاؤ کا درمیانہ اور سلطانیہ معلوم کیجیے۔

-40

کلاس وقفہ	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 – 100
تعداد	7	5	8	10	6	6	8

(CBSE-2017) مندرجہ ذیل بٹاؤ کا درمیانہ 65.6 ہے۔ نامعلوم تعداد f_1 اور f_2 معلوم کیجیے۔

-41

کلاس وقفہ	10 – 30	30 – 50	50 – 70	70 – 90	90 – 110	110 – 130	کل
تعداد	5	8	f_1	20	f_2	2	50

(CBSE-2020) مندرجہ ذیل تعدادی جدول کا موڈ 36 ہے۔ نامعلوم تعداد f کی قدر معلوم کیجیے۔

-42

کلاس	60-70	50-60	40-50	30-40	20-30	10-20	0-10
تعداد	7	6	12	16	f	10	8

(CBSE-2020) مندرجہ ذیل تعدادی جدول کا درمیانہ 18 ہے۔ کلاس وقفہ 19-21 کی نامعلوم تعداد f کی قدر معلوم کیجیے۔

-43

کلاس وقفہ	23-25	21-23	19-21	17-19	15-17	13-15	11-13
تعداد	4	5	f	13	9	6	3

درج ذیل جدول ایک گاؤں کے 100 کسانوں کی فی ہیکٹر گہوں کی پیداوار کو ظاہر کرتا ہے۔

-44

پیداوار	65-70	60-65	55-60	50-55	45-50	40-45
فارموں کی تعداد	24	30	20	16	6	4

ان اعدادو شمار کا موڈ معلوم کیجیے۔

ایک کلاس کے طلباء کی اونچائیوں کے مندرجہ ذیل بٹاؤ میں نامعلوم اندر راجات a, b, c, d, e, f معلوم کیجیے۔

-45

اوونچائی (cm میں)	175-180	170-175	165-170	160-165	155-160	150-155	تعداد
مجموعی تعداد	f	48	43	c	25	a	

جوابات اور اشارے

16.4 .1

20 .2

9 .3

3 .4

$x = 25$.5

5 .6

و سلطانیہ = 20 .7

24.5 .8

پہلے کلاس و فنون کو لگا تاریخیے (b) (i) .9

C (ii)

C (iii)

(زیادہ سے زیادہ تعداد 27 ہے) C (iv)

(مودل کلاس) 15 - 20 = b (v)

(و سلطانیہ کلاس) 10 - 15 =

B (vi)

45 اور 17.5 .10

56 .11

20 .12

14.8 .13

12.89 .14

.15

نمبر	طلباً کی تعداد
0	10-20
4	20-30
12	30-40
14	40-50
16	50-60
20	60-70
16	70-80
10	80-90
8	90-100

.16

نمبر	طلباً کی تعداد
10 سے کم	7
20 سے کم	16
30 سے کم	22
40 سے کم	30
50 سے کم	40

.17

کلاس وقفہ	تعداد
25 - 30	25
30 - 35	34
35 - 40	50
40 - 45	42
45 - 50	38
50 - 55	14

$$l = \frac{(f_1 - f_0)}{(2f_1 - f_0 - f_2)} \times h = \text{مودودی}$$

$$35 + \frac{(50 - 34)}{(100 - 34 - 42)} \times 5 =$$

$$35 + \frac{80}{24} =$$

$$38.33 =$$

.18

xi	fi	Cfi
10	2	2
20	3	5
30	2	7
40	3	10
50	1	11
Σ	11	

$$\text{میانہ} \left(\frac{11+1}{2} \right)^{th} = \text{میانہ}$$

$$\text{میانہ} 6^{th} =$$

$$30 =$$

$$\bar{x} = \frac{\sum fixi}{\sum fi} .19$$

$$45 = \frac{\sum fixi}{\sum fi}$$

$$\sum fixi = 900$$

$$81.5 .20$$

$$62.5 .21$$

$$14.46\text{cm} .22$$

$$11 .23$$

$$27 .24$$

$$10 .25$$

$$30 .26$$

$$46 .27$$

$$63.75 \text{ cm} .28$$

.29

$\text{میں کی}\text{}$	xi	di	ui	fi	$fiui$
30 – 35	32.5	- 15	- 3	14	- 42
35 – 40	37.5	- 10	- 2	16	- 32
40 – 45	42.5	- 5	- 1	28	- 28
45 – 50	47.5	0	0	23	0
50 – 55	52.5	5	1	18	18
55 – 60	57.5	10	2	8	16
60 – 65	62.5	15	3	3	9
			Σ	11	$\Sigma fiui = -59$

$$\bar{x} = a + \frac{\sum fiui}{\sum fi} \times h$$

$$= 47.5 - \frac{59}{110} \times 5$$

$$= 47.5 - 2.68$$

$$= 44.82$$

سوال نمبر 26 کی طرح جدول بنائیں۔ .30

$$\bar{x} = a + \frac{\sum fiui}{\sum fi} \times h$$

$$18 = 18 + \frac{(k - 8)}{40 + k} 2$$

$$2k - 16 = 0$$

$$k = 8$$

$$l + \left[\frac{(f_1 - f_0)}{(2f_1 - f_0 - f_2)} \right] \times h = \text{موم} .31$$

$$60 + \left[\frac{(29 - 21)}{(2 \times 29 - 21 - 17)} \right] \times 20 =$$

$$68 = \text{مود}$$

$$\text{درمیانہ} \times 2 - \text{وسطانیہ} \times 3 = \text{مود}$$

$$68 = 3 \times 53 - 2 \times \text{وسطانیہ}$$

$$\frac{68 + 106}{3} = \text{وسطانیہ}$$

$$\text{وسطانیہ} = 58$$

$$f_2 = 29, f_1 = 18 \quad .32$$

$$y = 7, x = 20 \quad .33$$

$$b = 25, a = 35 \quad .34$$

$$\text{درمیانہ} = 32.4, \text{وسطانیہ} = 33, \text{مود} = 34.39 \quad .35$$

$$\text{درمیانہ} = 25 \text{ cm} \quad .36$$

$$\text{درمیانہ} = 211 \text{ روپے} \quad .37$$

$$\text{وسطانیہ} = 24 \quad .38$$

$$\text{وسطانیہ} = 17.5 \text{ لاکھ روپے} \quad .39$$

$$\text{درمیانہ} = 51.92 \quad .40$$

$$\text{وسطانیہ} = 65 \quad .41$$

کلاس وقفہ	f_i	xi	$f_i xi$
10 – 30	5	20	100
30 – 50	8	40	320
50 – 70	f_1	60	$60f_1$
70 – 90	20	80	1600
90 – 110	f_2	100	$100f_2$
110 – 130	2	120	240
	$35 + f_1 + f_2$		$2260 + 60f_1 + 100f_2$

$$35 + f_1 + f_2 = 50 \Rightarrow f_1 + f_2 = 15 \quad \text{--- (1)}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum fixi}{\sum fi}$$

$$65.6 = \frac{2260 + 60f_1 + 100f_2}{50}$$

$$3f_1 + 5f_2 = 51 \quad \text{--- (2)}$$

مساوات کوں کرنے پر (1) اور (2)

$$f_2 = 3, \quad f_1 = 12$$

$$f = 10 \quad .42$$

$$f = 8 \quad .43$$

$$63.125 = \text{مودع} \quad .44$$

$$8 \quad (\text{d}) \quad 35 \quad (\text{c}) \quad 13 \quad (\text{b}) \quad 12 \quad (\text{a}) \quad .45$$

$$50 \quad (\text{f}) \quad 5 \quad (\text{e})$$

مشقی سوالات

شماریات

کل نمبر: 20

وقت: 1 گھنٹہ

A - سیکشن

- 1 پہلے 10 فطری اعداد کا درمیانہ معلوم کیجیے۔
- 2 اعداد و شمار 14, 18, 9, 15, 45, 61, 29, 27 کی رشیت ہے۔
- | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 53 | (d) | 47 | (c) | 52 | (b) | 61 | (a) |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
- 3 ایک مسلسل تعددی بٹاؤ میں اعداد و شمار کا وسطانیہ 24 ہے۔ اگر ہر ایک آٹھ میں 2 کلوکا اضافہ کر دیا جائے تو نیا وسطانیہ معلوم کیجیے۔
- 4 تعددی بٹاؤ کے لیے درمیانہ، وسطانیہ اور بہتاتیہ (موڈ) کے درمیان کیا تعلق ہے؟
- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (a) 2 وسطانیہ - 3 درمیانہ = موڈ | (b) 3 درمیانہ - 2 وسطانیہ = موڈ | (c) 2 درمیانہ - 3 وسطانیہ = موڈ | (b) 2 درمیانہ + 3 وسطانیہ = موڈ |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

B - سیکشن

- 5 10 مشاہدات کا درمیانہ 42 ہے۔ اگر اعداد و شمار کے ہر ایک مشاہدہ میں 12 کی کمی کر دی جائے تو نیا درمیانہ معلوم کیجیے۔
- 6 10 اعداد کا درمیانہ 15 اور دیگر 20 اعداد کا درمیانہ 24 ہے۔ سچھی 30 مشاہدات کا درمیانہ معلوم کیجیے۔
- 7 ایک ہی ماڈل کی 50 کاروں کا مانیچ (کلو میٹر فی لیٹر) ذیل کے جدول میں دیا گیا ہے۔

مانیچ (کلو میٹر فی لیٹر)	کاروں کی تعداد
16-18	13
14-16	18
12-14	12
10-12	7

درمیانہ مانیچ معلوم کیجیے۔

سیکشن - C

80 پنکھوں کا وقفہ حیات درج ذیل تعدادی بٹاؤ جدول میں دیا گیا ہے۔

-8

3600-4000	3200-3600	2800-3200	2400-2800	2000-2400	وقفہ حیات
پنکھوں کی تعداد					
7	23	20	15	5	پنکھوں کی تعداد

پنکھوں کی درمیانیہ تعداد معلوم کیجیے۔

درج ذیل اعداد و شمار کا مود 36 ہے۔ x کی قدر معلوم کیجیے۔

-9

60-70	50-60	40-50	30-40	20-30	10-20	0-10	کلاس
تعداد							
7	6	12	16	x	20	8	کلاس

درج ذیل اعداد و شمار کا وسطانیہ 28 ہے۔ اگر کل تعداد 50 ہے تو x,y معلوم کیجیے۔


-10

42-49	35-42	28-35	21-28	14-21	7-14	0-7	نمبر
طلباً کی تعداد							
9	16	y	11	7	x	3	نمبر

باب 14

احتمال

(PROBABILITY)



یاد رکنے والی باتیں :

-1 کسی وقوع کے ہونے کے امکان کی پیمائش احتمال ہوتی ہے۔

$$-2 \quad \text{کسی وقوع } E \text{ کے ہونے کا احتمال} = \frac{\text{وقوع } E \text{ کے موافق نتائج کی تعداد}}{\text{تجربے کے تمام ممکن نتائج کی تعداد}}$$

$$-3 \quad 0 \leq P(E) \leq 1$$

-4 اگر E ہو تو $P(E) = 0$ اگر E ہو تو $P(E) = 1$

-5 اگر E ہو تو $P(E) = 1$ اگر E ہو تو $P(\bar{E}) = 0$

-6 اگر E کوئی وقوع ہے تو E نہیں (\bar{E}) تکمیلی وقوع کہلاتا ہے۔


$$-7 \quad P(E) + P(\bar{E}) = 1 \Rightarrow P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

-8 کسی وقوع کا احتمال منفی نہیں ہوتا۔


9- تمام نتائج کا مجموعہ (Sample space)۔ کسی تجربہ کے تمام ممکنہ نتائج کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔

کچھ وقوعوں کے نتائج

1-	جب ایک سکہ اچھا لاجاتا ہے تو نتائج [H, T] =
2-	جب دو سکے اچھا لے جائیں گے تو کل نتائج [HH, HT, TH, TT] =
3-	جب تین سکے اچھا لے جائیں گے تو کل نتائج HHH, HHT, HTH, HTT, TTT, TTH, THT, THH =
4-	جب چار سکے اچھا لے جائیں گے تو کل نتائج [HHHH, TTTT, HTTT, THTT, TTHT, TTHH, HTHT, THTH, HTTH, THHT, THHH, HTHH, HHTH, HHHT] =



1-	جب ایک پانسہ پھینکا جائے تو کل نتائج 1, 2, 3, 4, 5, 6 =
2-	جب دو پانسے پھینکے جائیں تو کل نتائج $36 = 6 \times 6$ =
	$[(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)]$
3-	جب تین پانسے پھینکے جائیں تو کل نتائج $216 = 6 \times 6 \times 6$ =



مختصر ترین جواب والے سوالات

1- ایک سے زیادہ انتخاب والے سوالات

(NCERT) مندرجہ ذیل میں سے کونسا وقوع کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ (i)

- 15% (d) - 1.5 (c) $\frac{2}{3}$ (a) 0.7 (a)

(NCERT-Exemplar) مندرجہ ذیل میں سے کونسا وقوع کا احتمال ہو سکتا ہے۔ (ii)

- $\frac{8}{7}$ (d) $\frac{18}{23}$ (c) 1.004 (d) - 0.04 (a)

(NCERT-Exemplar) ایک وقوع کے ہونے کے امکان نہیں ہے۔ اس کا احتمال کس کے زیادہ قریب ہو گا۔ (iii)

- 0.1 (d) 0.01 (c) 1.001 (b) 0.0001 (a)

ایک ہندسہ کے مفراد اعداد میں سے ایک چنانگیا۔ جفت عدد چننے کا احتمال (iv)

- $\frac{2}{5}$ (d) $\frac{4}{9}$ (c) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (a)

جب ایک پانسہ کو پہنچا جاتا ہے تو تین سے چھوٹا طاق عداؤ نے کا احتمال (v)

- 0 (d) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{6}$ (a)

ریشمی کے پاس ایک پانسہ ہے جس کے چھ چھروں پر مندرجہ ذیل حروف لکھے ہوئے ہیں۔ (vi)

A | B | C | D | A | C

اگر وہ پانسہ کو ایک بار اچھاتی ہے۔ تو حروف C آنے کا احتمال

- | | | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| $\frac{1}{6}$ | (d) | $\frac{1}{5}$ | (c) | $\frac{1}{4}$ | (b) | $\frac{1}{3}$ | (a) |
|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|

اچھی طرح پھینٹی گئی 52 پتوں کی تاش کی گذی میں سے ایک پتہ نکالا گیا۔ وقوع E: نکالا گیا پتہ تصویر والا پتہ نہیں ہے۔ وقوع E کے لیے موافق متاج کی تعداد (vii)

- | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 12 | (d) | 36 | (c) | 40 | (a) | 51 | (a) |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|

اگر کسی وقوع کا احتمال P ہے تو اس کے تکمیلی وقوع (Complementary event) کا احتمال (i) - 2

- | | | | | | | | |
|-------------------|-----|---------|-----|---|-----|---------|-----|
| $1 - \frac{1}{p}$ | (d) | $1 - P$ | (c) | p | (b) | $p - 1$ | (a) |
|-------------------|-----|---------|-----|---|-----|---------|-----|

$$P(\text{جیت}) = \frac{x}{12}, P(\text{خیت}) = \frac{12-x}{12} \quad (\text{ii})$$

- | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 9 | (d) | 7 | (c) | 8 | (b) | 6 | (a) |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|

اعداد 15, 1, 2, 3, کے میں سے بلا منصوبہ ایک عدد چنانگیا اس عدد کے 4 کا صعف ہونے کا احتمال (iii)

- | | | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| $\frac{1}{3}$ | (d) | $\frac{1}{5}$ | (c) | $\frac{2}{15}$ | (b) | $\frac{4}{15}$ | (a) |
|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|

ایک غیر لیپ سال میں 53 بیہہ ہونے کا احتمال (iv)

- | | | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| $\frac{5}{7}$ | (d) | $\frac{3}{7}$ | (c) | $\frac{2}{7}$ | (b) | $\frac{1}{7}$ | (a) |
|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|

ایک تھیلے میں 6 لاں اور 5 نیلی گیندیں ہیں۔ اگر تھیلے میں سے ایک گیند کا لی جائے تو اس گیند کے نیلے ہونے کا احتمال (v)

- | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| $\frac{6}{11}$ | (d) | $\frac{5}{11}$ | (c) | $\frac{5}{6}$ | (a) | $\frac{2}{11}$ | (a) |
|----------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|

لفظ MATHEMATICS میں سے ایک حروف تہجی چنانگیا۔ علت (Vowel) آنے کا احتمال (vi)

$$\frac{4}{11} \quad (d) \quad \frac{3}{11} \quad (c) \quad \frac{5}{11} \quad (b) \quad \frac{6}{11} \quad (a)$$

دو سکوں کو ایک ساتھ اچھا لاجاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک میم (Head) آنے کا احتمال (vii)

$$\frac{3}{4} \quad (d) \quad \frac{2}{3} \quad (c) \quad \frac{1}{2} \quad (b) \quad \frac{1}{4} \quad (a)$$

مختصر جواب والے سوالات

- ایک تاش کی گڈی کے 52 پتوں میں سے ایک پتہ نکالا گیا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ وہ پتہ نہ تو اکا ہے اور نہ ہی بادشاہ۔ 3-
- ایک باکس میں 250 بلب رکھے ہوئے ہیں جن میں سے 35 بلب ناقص ہیں۔ اگر باکس میں سے ایک بلب نکالا جائے تو احتمال معلوم کیجیے کہ وہ بلب ناقص نہیں ہے۔ 4-
- کسی وقوعہ کے نتائج 3:4 ہیں۔ اس وقوعہ کے ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔ 5-
- اگر عدد 29 کو اعداد 29, 25, 16, 9, 4, 1 میں سے ہٹا دیا جائے تو مفرد عدد حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔ 6-
- تاش کی گڈی میں سے ایک پتا نکالا گیا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ نکالا گیا پتا تصویر والا ہے۔ 7-
- ایک لاڑکی میں 1000 ٹکٹ ہیں جن میں سے 5 میں انعامات نہیں گے۔ اگر کوئی شخص ایک ٹکٹ خریدتا ہے تو اس کے انعام جتنے کا احتمال معلوم کیجیے۔ 8-
- تاش کی گڈی میں سے ایک پتا نکالا گیا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ نکالا گیا پتا کالا بادشاہ ہے۔ 9-
- ایک پانسہ کو ایک مرتبہ اچھا لایا۔ کامل مریع حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔ 10-
- دو پانسوں کو ایک ساتھ پھینکا گیا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ ان دونوں پانسوں پر آنے والے اعداد کا حاصل جمع 10 یا 10 سے زیادہ ہوگا۔ 11-
- اعداد 35, 34, 3, 1, 2, 3, 33, 34 میں سے 7 کا ضعف حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔ 12-
- دو پانسوں کو ایک ساتھ اچھا لاجاتا ہے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ دونوں پانسوں پر آئے اعداد کا حاصل جمع 8 ہے۔ 13-
- (CBSE-2020)

- انگریزی کے حروف میں سے ایک حرف چنانگیا احتمال معلوم کیجیے کہ چنانگیا حروف طنزیں (Constant) ہو۔ 14-
- (CBSE-2020)
- کسی کھیل کے جیتنے کا احتمال 0.07 ہے۔ اس کھیل کے ہار نے کا احتمال معلوم کیجیے۔ 15-
- (CBSE-2020)
- دوغیر جانب دار سکولوں کو ایک ساتھ اچھا لاجاتا ہے۔ کوئی بھی بیڈ حاصل نہ ہونے کا احتمال $\frac{a}{b}$ ہے تو $a+b$ معلوم کیجیے۔ 16-
- (CBSE-2016)
- دو مختلف پانسوں کو ایک ساتھ اچھا لاجاتا ہے۔ احتمال معلوم کیجیے۔ 17-
- (a) دونوں پانسوں پر ایک ہی عدد آئے۔
- (b) دونوں پانسوں پر آئے اعداد کا حاصل جمع 10 ہو۔
- ایک باکس میں 12 گیندیں ہیں ان میں سے کچھ لال اور کچھ نیلی ہیں اگر باکس میں 6 لال گیندیں ڈال دی جائیں تو لال گیند کا احتمال پہلے کے مقابلے دو گنا ہو جاتا ہے۔ باکس میں لال گیندوں کی تعداد معلوم کیجیے۔ 18-
- (CBSE-2018)
- ایک سے 100 تک کے اعداد میں سے بلا منصوبہ ایک عدد چنانگیا احتمال معلوم کیجیے۔ 19-
- (i) عدد 8 سے تقسیم ہو جائے۔
- (ii) عدد 8 سے تقسیم نہ ہو۔
- تین مختلف سکولوں کو ایک ساتھ اچھا لاگیا احتمال معلوم کیجیے۔ 20-
- (i) صرف دو میم (Head) آئیں
- (ii) کم سے کم دو میم (Head) آئیں۔
- ایک باکس میں کچھ کارڈ رکھے ہوئے جن پر 11 تا 30 اعداد درج ہیں۔ انہیں اچھی طرح ملایا گیا اور باکس میں سے 1 کارڈ بلا منصوبہ طور پر نکالا گیا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ نکالے گئے کارڈ پر درج عدد ایک مفرد عدد ہے۔ 21-
- ایک تھیلے میں 5 لال گیندیں ہیں اور کچھ نیلی گیندیں ہیں۔ اگر نیلی گیند کے نکالنے کا احتمال لال گیند کے نکالنے کے احتمال کا 3 گنا ہو تو تھیلے میں نیلی گیندوں کی تعداد معلوم کیجیے۔ 22-
- (CBSE-2020)

- 23۔ دو مختلف پاسوں کو ایک ساتھ اچھا لایا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ دونوں پاسوں پر آئے اعداد کا حاصل جمع 5 سے کم ہو۔
(CBSE-2020)
- 24۔ کسی چند گئے سال کے نومبر کے مہینے میں 5 اتوار ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔
(CBSE-2020)
- 25۔ تین بچوں والے خاندان میں کم سے کم دو لڑکے ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔
(CBSE-2020)
- 26۔ دو بچوں والے خاندان میں زیادہ ایک لڑکی ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔
(CBSE-2020)
- 27۔ دو مختلف پاسوں کو ایک ساتھ اچھا لایا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ دونوں پاسوں پر مختلف اعداد ہوں۔
(CBSE-2020)
- 28۔ اعداد $3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ میں سے ایک عدد x چنان گیا احتمال معلوم کیجیے کہ $4 \leq x^2$

مختصر جواب والے سوالات (Type-II سوالات)

- 29۔ اعداد $1, 2, 3$ میں سے ایک عدد x کو بلا منصوبہ طور پر منتخب کیا گیا۔ اسی طرح اعداد $1, 4, 9$ میں سے ایک عدد y کو بلا منصوبہ طور پر منتخب کیا گیا۔ اس بات کا احتمال معلوم کیجیے کہ x اور y کا حاصل ضرب 9 سے کم ہے۔
- 30۔ دو پاسوں کو ایک ہی وقت میں پھینکا گیا۔ اس بات کا احتمال معلوم کیجیے کہ دونوں پاسوں پر آنے والے اعداد کا فرق 2 ہے۔
- 31۔ 10 اور 100 کے درمیان کسی ایک صحیح عدد کو منتخب کیا گیا۔ اس بات کا احتمال معلوم کیجیے کہ یہ صحیح عدد
(i) 7 سے قبل تقسیم ہے
(ii) 7 سے قبل تقسیم نہیں ہے
- 32۔ دو پاسوں کو ایک ساتھ اچھا لاجاتا ہے۔
- (a) پاسوں پر آئے اعداد کا حاصل ضرب 12 ہوا۔ احتمال معلوم کیجیے۔
(b) اعداد کا حاصل جمع زیادہ سے زیادہ 5 ہو۔ احتمال معلوم کیجیے۔
- 33۔ ایک باکس میں کچھ کارڈ کے ہوئے ہیں جن میں سے 101 تک اعداد درج ہیں۔ باکس میں سے 1 کارڈ کو بلا منصوبہ طور پر نکالا گیا۔ اس بات کا احتمال معلوم کیجیے کہ نکالا گیا کارڈ
-
- | | | |
|--------------------|------------------|--------------|
| (a) ایک جفت عدد ہے | (b) مرلیع عدد ہے | مرلیع عدد ہے |
|--------------------|------------------|--------------|

ایک لارڈ میں 10 نکٹ پر انعام اور 25 خالی ہیں۔ انعام جیتنے کا احتمال معلوم کیجیے اس قوام کے لیے $P(E) + P(\bar{E}) = 1$ کی بھی تصدیق کیجیے۔ - 34

کسی کھیل کے جیتنے کا احتمال $\frac{x}{12}$ ہے۔ اگر اس کے ہارے کا احتمال $\frac{1}{3}$ ہو تو x کی قدر معلوم کیجیے۔ - 35

طویل جواب والے سوالات

کارڈس جن پر اعداد 50, 5, 4, 5, میں ڈالا گیا اور اچھی طرح ملا دیا گیا۔ اب اس باکس میں سے ایک کارڈ بلا منصوبہ طور پر نکالا گیا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ کارڈ پر لکھا ہوا عدد

(i) 7 سے تقسیم ہو

(ii) کامل مرتع ہو

ایک تھیلے میں 5 سفید گیندیں، 7 لال گیندیں، 4 کالی گیندیں اور 2 نیلی گیندیں ہیں۔ اگر اس تھیلے میں سے ایک گیند نکالی جائے تو احتمال معلوم کیجیے کہ گیند

(i) سفید یا نیلی ہو (ii) لال یا کالی ہو

(iii) سفید نہیں ہو (iv) نہ سفید ہونہ ہی کالی

تاش کے 52 پتوں میں سے اینٹ کا بادشاہ، بیگم اور غلام کو ہٹا دیا جاتا ہے اور باقی پتوں کو اچھی طرح پھینٹا جاتا ہے۔ اب ان میں سے ایک کارڈ نکالا جاتا ہے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ وہ پتا۔

(i) اینٹ کا ہے (ii) غلام ہے

400 انڈوں میں سے ایک خراب انڈا نکلنے کا احتمال 0.035 ہے۔ خراب انڈوں کی تعداد معلوم کیجیے۔ ایک صحیح انڈا نکلنے کا احتمال بھی معلوم کیجیے۔ - 39

کسی میلے میں ایک کھیل کے اشال پر کچھ پر چیاں رکھی ہیں جن پر 11, 9, 9, 9, 7, 7, 7, 5, 3, 3 لکھا ہے۔ ایک شخص اس وقت جیتے گا اگر اس کی پر پچی پر ان اعداد کا درمیانہ لکھا ہو۔ اس کھیل میں اس شخص کے ہار جانے کا احتمال کیا ہو گا؟ - 40

- 41- ایک ڈبے میں 90 ڈسک ہیں جن پر 1 سے 90 تک اعداد درج ہیں۔ ایک ڈسک کو بلا منصوبہ طور پر نکالا جاتا ہے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ ڈسک کے اوپر درج عدد
- (i) ایک دوہندری عدد ہے (ii) 5 سے تقسیم ہوجاتا ہے (iii) ایک کامل مرتع ہے
- 42- 52 پتوں کی اچھی طرح پھینٹی گئی گلڈی سے ایک پتہ بلا منصوبہ طور پر نکالا گیا ہے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ نکالا گیا پتہ حکم یا آنکا ہے
- (a) لال بادشاہ ہے (b) لال بادشاہ ہے (c) نہ تو بادشاہ ہے اور نہ ہی بیگم (d) یا تو بادشاہ ہے یا بیگم
- 43- 52 پتوں کی اچھی طرح پھینٹی گئی گلڈی سے ایک پتہ بلا منصوبہ طور پر نکالا گیا ہے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ نکالا گیا پتہ تصویر والا ہے
- (i) تصویر والا ہے (ii) لال تصویر والا ہے (iii) کالی تصویر والا ہے
- 44- زمینش کو 24000 روپے تھوار کے موقع پر بونس کی شکل میں حاصل ہوئے۔ اس نے 5000 روپے مندر میں، 12000 روپے اپنی بیوی کو، 2000 روپے اپنے نوکر کو اور باقی رقم اپنی بیٹی کو دے دی۔
- (i) بیوی کو حاصل ہونے والی رقم کا احتمال معلوم کیجیے۔ (ii) نوکر کو حاصل ہونے والی رقم کا احتمال معلوم کیجیے۔ (iii) بیٹی کو حاصل ہونے والی رقم کا احتمال معلوم کیجیے۔ (iv) اس سوال میں زمینش کی کم قدر روں کو ظاہر کیا گیا ہے؟
- 45- ایک ہائل میں 240 طلباء رہتے ہیں۔ ان میں سے 50% صبح کے وقت یوگا کلاس میں جاتے ہیں، 25% تم کلب اور 15% ٹھہرے جاتے ہیں۔ باقی طلباء لائفنگ کلب سے وابستہ ہیں۔ لائفنگ کلب سے وابستہ طلباء کا احتمال معلوم کیجیے۔
- 46- ایک بس میں کچھ کارڈز ہیں جن پر 11 سے 23 تک اعداد لکھے ہوئے ہیں۔ اس بس میں بلا منصوبہ ایک کارڈ نکالا گیا احتمال معلوم کیجیے۔ اس پر عدد
- (CBSE-2018) (i) کامل مرتع ہو (ii) 7 کا ضعف ہو

(CBSE-2019) 47۔ ایک پانسہ کو دو بار اچھا لایا جمال معلوم کیجیے۔

کم سے کم ایک پانسہ پر 5 آئے (i)

5 ایک بار بھی نہیں آئے (ii)

48۔ ایک بکس میں کچھ کارڈز ہیں جن پر اعداد 49, 4, 3, 5, 1 لکھے ہوئے ہیں۔ بکس میں سے بلا منصوبہ ایک کارڈ نکالا

(CBSE-2017) گیا جمال معلوم کیجیے کہ اس پر لکھا ہوا عدد

3 سے تقسیم ہو۔ (i)

ایک مرکب عدد ہو۔ (ii)

کامل مرلع نہیں ہو۔ (iii)

3 اور 5 کا ضعف ہو۔ (iv)

49۔ بچوں کے ایک کھیل میں 8 مثلث ہیں جن میں سے 3 نیلے اور باقی لال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 مرلع ہیں جن میں

سے 6 نیلے اور باقی لال ہیں۔ ایک نکلاضائع ہو جاتا ہے۔ اس بات کا جمال معلوم کیجیے کہ ضائع ہونے والا نکلا ایک:

مثلث ہے (a)

مرلع ہے (b)

نیلے رنگ کا مرلع ہے (c)

لال رنگ کا مثلث ہے (d)

50۔ ایک تھیلے میں 24 گیندیں ہیں جن میں سے x لال رنگ کی ہیں، $2x$ سفید اور $3x$ نیلے رنگ کی ہیں۔ تھیلے سے ایک گیند کو بلا

منصوبہ طور پر نکالا گیا۔ اس بات کا جمال معلوم کیجیے کہ کامیابی گئی گیند

لال نہیں ہے (i)

سفید ہے (ii)

جوابات

C (i) -1

C (ii)

A (iii)

(مفرد اعداد 7, 5, 3, 2) B (iv)

A (v)

($\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ = ملائم) A (vi)

(صوری دالے پتے = 12، باقی پڑھے = 40) B (vii)

($P(E) + P(\bar{E}) = 1$) C (i) -2

$x = 8$ B (ii)

($\frac{1}{5} = \frac{3}{15}$ = ملائم) D (iii)

(کل ہفتہ = 52، باقی دن = 1) A (iv)

C (v)

(A, A, E, I علٹ) D (vi)

D (vii)

کل 52 = -3

لے کے 4 =

بادشاہ 4 =

$\frac{11}{13} = \frac{44}{52}$ (نہ اگاہ ہونے بادشاہ ہو) P

$$\frac{43}{50} = 1 - \frac{35}{250} = P \text{ (نقص والا نہ ہو)} \quad -4$$

$$7 = 3 + 4 = \text{کل} \quad -5$$

$$\frac{4}{7} = P \text{ (ہونے کے امکان) } \quad -6$$

$$0 = P \text{ (مفرد عدد)} \quad -6$$

$$12 = \text{تصویر والے پتے} \quad -7$$

$$\frac{3}{13} = \frac{12}{52} = P \text{ (تصویر والے پتے)} \quad -7$$

$$0.005 = \frac{5}{1000} = P \text{ (جتنے کے امکان)} \quad -8$$

$$\text{کالے رنگ کے بادشاہ} = 2 \quad -9$$

$$\frac{1}{26} = \frac{2}{52} = P \text{ (حتماً)} \quad -10$$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = P \text{ (کامل مرتع)} \quad -10$$

$$\text{کل نتائج} = 36 = 6 \times 6 \quad -11$$

$$\text{موافق نتائج} = (6, 6), (6, 5), (5, 6), (6, 4), (5, 5), (4, 6) \quad -11$$

$$\frac{1}{6} = \frac{6}{36} = P \text{ (اعداد کا جوڑ 10 یا اس سے زیادہ ہے)} \quad -12$$

$$35, 28, 21, 14, 7 = 7 \text{ کے ضعف} \quad -12$$

$$\frac{1}{7} = \frac{5}{35} = P \text{ (7 کے ضعف)} \quad -13$$

$$\frac{5}{36} = P \text{ (اعداد کا جوڑ 8 ہو)} \quad -13$$

$$\frac{21}{26} = (\text{Consonant}) P \quad -14$$

$$1 - 0.07 = (\lambda)P \quad -15$$

$$0.93 =$$

$$(a+b)^2 = 25 \quad -16$$

$$\text{اکیک جیسے اعداد والے نتائج} = (6, 6), (5, 5), (4, 4), (3, 3), (2, 2), (1, 1) \quad (i) \quad -17$$

$$\frac{1}{6} = \frac{6}{36} = \text{احتمال}$$

$$\text{حاصل جمع 10 والے نتائج} = (6, 4), (5, 5), (4, 6) \quad (ii)$$

$$\frac{1}{12} = \frac{3}{36} = \text{احتمال}$$

$$\frac{x+6}{18} = 2 \left(\frac{x}{12} \right) \quad -18$$

$$x = 3$$

$$\text{کل نتائج} = 98 \quad (\text{اکیک اور 100 کے درمیان}) \quad -19$$

$$96 \dots, 24, 16, 8 = 8 \text{ سے تقسیم ہونے والے اعداد} \quad (i)$$

$$\text{موافق نتائج} = 12$$

$$\frac{6}{49} = \frac{12}{98} = \text{احتمال}$$

$$\frac{43}{49} = 1 - \frac{6}{49} = (8 \text{ سے تقسیم نہ ہو}) P \quad (ii)$$

$$\begin{bmatrix} \text{HHH}, \text{HHT}, \text{HTH}, \text{HTT} \\ \text{TTT}, \text{THT}, \text{TTH}, \text{THH} \end{bmatrix} = \text{کل نتائج} \quad -20$$

$$\frac{3}{8} = (\text{Head 2}) P \quad (i)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{4}{8} = (\text{Head 2 ملے کر}) P \quad (ii)$$

29, 23, 19, 17, 13, 11 مفرد عدد ہیں 20 -21

$$\frac{3}{10} = \frac{6}{20} = \text{احتمال}$$

مانا نیل رنگ کی گیندیں x ہیں -22

$$\text{کل گیندیں} = (5+x)$$

$$P(\text{نیل گیندیں}) = P(\text{لال گیندیں})$$

$$\left(\frac{5}{5+x} \right) \times 3 = \frac{x}{5+x}$$

$$\Rightarrow x = 15$$

موافق نتائج (3, 1) (2, 2) (2, 1) (1, 3) (1, 2) (1, 1) -23

$$\frac{1}{6} = \frac{6}{36} = P(\text{جوڑ 5 سے کم ہو})$$

نومبر کے میں میں کل دن = 30 -24

لیکن 4 ہفتے اور 2 دن

$$\frac{2}{7} = P(\text{15 اتوار ہوں})$$

$$\frac{1}{2} = \frac{4}{8} = P(\text{کم سے کم 2 بڑے ہوں}) -25$$

$$P(\text{زیادہ سے زیادہ ایک بڑی}) = \frac{3}{4} -26$$

$$\frac{5}{6} = \frac{30}{36} = P(\text{ مختلف اعداد ہوں}) -27$$

موافق نتائج -2, -1, 0, 1, 2 -28

$$\frac{5}{7} = P(x^2 \leq 4)$$

$$\text{کل نتائج} = (1, 1), (1, 4), (1, 9) \quad -39$$

$$(2, 1), (2, 4), (2, 9)$$

$$(3, 1), (3, 4), (3, 9)$$

موافق نتائج جن میں $xy < 9$

$$(1, 1), (1, 4), (2, 1), (2, 4), (3, 1)$$

$$\text{احتمال} = \frac{5}{9}$$

$$\text{کل نتائج} = 36 \quad -30$$

$$(1, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 5), (4, 2), (4, 6), (5, 3), (6, 4) = \text{موافق نتائج (a)}$$

$$\text{احتمال} = \frac{2}{9} = \frac{8}{36}$$

$$(6, 5), (5, 6), (6, 3), (5, 4), (4, 5), (3, 6) = \text{موافق نتائج (b)}$$

$$\text{احتمال} = \frac{1}{6} = \frac{6}{36}$$

$$\frac{x}{15+x} = 3 \times \frac{15}{15+x} \quad -31$$

$$x = 45$$

کالی گیندوں کی تعداد 45 ہے۔

$$\text{کل نتائج} = 36 = 6 \times 6 \quad -32$$

$$(6, 2), (3, 4), (4, 3), (2, 6) = \text{موافق نتائج (a)}$$

$$\text{احتمال} = \frac{1}{9} = \frac{4}{36}$$

$$\text{موافق نتائج (ب)} = (5 \geq 2) \quad -32$$

$$(4, 1), (3, 2), (3, 1) (2, 3) (2, 2), (2, 1), (1, 4) (1, 3) (1, 2) (1, 1)$$

$$\text{احتمال} = \frac{5}{18} = \frac{10}{36}$$

$$\text{کل اعداد} = 100 \quad -33$$

81, 36, 9 سے تقسیم ہونے والے کامل مربع اعداد = 9 (i)

$$\frac{1}{2} = \frac{50}{100} = \text{احتمال}$$

81, 64, 49, 36, 25, 16, 9, 4 = مربع عدد (ii)

$$0.09 = \frac{9}{100} = \text{احتمال}$$

$$\text{کل ٹکٹ} = 35 \quad -34$$

$$\frac{2}{7} = \frac{10}{35} = (\text{انعام}) P = (E) P$$

$$\frac{5}{7} = \frac{25}{35} = (\text{انعام نہیں}) P = (\bar{E}) P$$

$$P(E) + P(\bar{E}) = \frac{2}{7} + \frac{5}{7}$$

$$= \frac{7}{7} = 1$$

$$1 = (J) P + (جیت) P \quad -35$$

$$1 = \frac{1}{3} + \frac{x}{12}$$

$$x = 8$$

$$\text{کل کارڈز} = 48 = 50 - 3 + 1 \quad -36$$

7 سے تقسیم ہونے والے اعداد = 7 (i)

$$\frac{7}{48} = \text{احتمال}$$

دوہنڈسوں کے اعداد - 10, 11, 12, 50 (ii)

$$\text{موافق نتائج کی تعداد} = 50 - 10 + 1 = 41$$

$$41 =$$

$$\frac{41}{48} = \text{احتمال}$$

$$\frac{7}{18} = \frac{5+2}{18} \quad (\text{i}) \quad -37$$

$$\frac{11}{18} = \frac{7+4}{18} \quad (\text{ii})$$

$$\frac{13}{18} = \frac{7+4+2}{18} \quad (\text{iii})$$

$$\frac{1}{2} = \frac{9}{18} = \frac{7+2}{18} \quad (\text{iv})$$

$$\text{باقی کارڈز} = 49 = 52 - 3 \quad -38$$

$$10 = 13 - 3 = \text{باقی اسینٹ کے پہنچے} \quad (\text{i})$$

$$\frac{10}{49} = \text{احتمال}$$

$$\frac{3}{49} = (\text{غلام}) P \quad (\text{ii})$$

$$400 = \text{کل اندھے} \quad -39$$

$$0.035 = (\text{ناقص اندھے}) P$$

$$0.035 = \frac{x}{400}$$

$$x = 400 \times 0.035$$

$$x = 14$$

$$0.965 = 1 - 0.035 = (\text{بنانے والے اندھے}) P$$

$$10 = \frac{70}{10} = \frac{3+3+5+7+7+7+9+9+9+11}{10} = \text{درمیانہ} \quad -40$$

$$\frac{3}{10} = 1 - \frac{7}{10} = (\text{شکست}) P$$

$$\text{کل اعداد} = 90 \quad -41$$

وہندسوں کے اعداد - 90, 12, 11, 10 (i)

$$\frac{9}{10} = \frac{81}{90} = \text{احتمال}$$

کامل ممکن اعداد - 81, 64, 49, 36, 25, 16, 9, 4, 1 (ii)

$$\frac{1}{10} = \frac{9}{90} = \text{احتمال}$$

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 سے تسلیم ہونے والے اعداد (iii)
80, 85, 90

$$\frac{1}{5} = \frac{18}{90} = \text{احتمال}$$

$$\frac{4}{13} = \frac{16}{52} = \frac{13+3}{52} = (\text{حکم یا اکا}) P \quad (i) \quad -42$$

$$\frac{1}{26} = \frac{2}{52} = (\text{لاں بادشاہ}) P \quad (ii)$$

$$\frac{11}{13} = 1 - \frac{2}{13} = 1 - \frac{8}{52} = (\text{نہ بادشاہ ہونے پہنچ ہو}) P \quad (iii)$$

$$\frac{2}{13} = \frac{8}{52} = (\text{بادشاہ ہو یا پہنچ ہو}) P \quad (iv)$$

$$\frac{3}{13} = \frac{12}{52} \quad (i) \quad -43$$

$$\frac{3}{26} = \frac{6}{52} \quad (ii)$$

$$\frac{3}{26} = \frac{6}{52} \quad (iii)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{12000}{24000} = (\text{بیوی کا حصہ}) P \quad (i) \quad -44$$

$$\frac{1}{12} = \frac{2000}{24000} = (\text{نوکر کا حصہ}) P \quad (ii)$$

$$\frac{5}{24} = \frac{5000}{24000} = P (\text{بی کا حصہ}) \quad (\text{iii})$$

10% طلباء نے لافنگ کلب میں شرکت کی۔ -45

$$P (\text{لافنگ کلب میں شمولیت حاصل کرنے والے طلباء}) = \frac{1}{10} = \frac{10}{100}$$

$$\text{کل کارڈز} = 113 = 123 - 11 + 1 \quad -46$$

$$\text{کامل مرینج اعداد} = 121, 100, 81, 64, 49, 36, 25, 16 \quad (\text{i})$$

$$\frac{8}{113} = P (\text{کامل مرینج عدد})$$

$$119, 112, 105, 98, 91, 84, 77, 70, 63, 56, 49, 42, 35, 28, \dots \text{ کے ضعف} - 7 \quad (\text{ii})$$

$$21, 14$$

$$\frac{16}{113} = P (\text{7 کے ضعف})$$

$$\text{کل نتائج} = 36 = 6 \times 6 \quad -47$$

$$\left[(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 6) \right] = \frac{11}{36} = P (\text{5 کم سے کم ایک بار آئے}) \quad (\text{i})$$

$$\frac{25}{36} = 1 - \frac{11}{36} = P (\text{5 ایک بار بھی نہ آئے}) \quad (\text{ii})$$

$$\text{کل نتائج} = 25 \quad -48$$

$$45, 39, 33, 27, 21, 15, 9, 3 - \text{ تھیس ہونے والے اعداد} \quad (\text{i})$$

$$\frac{8}{25} = P (\text{اتماں})$$

$$49, 45, 39, 35, 33, 27, 25, 21, 15, 9 - \text{ مرکب اعداد} \quad (\text{ii})$$

$$\frac{2}{5} = \frac{10}{25} = P (\text{اتماں})$$

$$[1, 9, 25, 49] - \text{ کامل مرینج اعداد} = P (\text{کامل مرینج عدد}) \quad (\text{iii})$$

$$1 - \frac{4}{25} =$$

$$\frac{21}{25} =$$

45, 15 – 5 اور 3 کے ضعف (iv)

$$\frac{2}{25} = (5 \text{ اور } 3) P$$

$$\frac{4}{9} = \frac{8}{2} \quad (\text{i}) \quad -49$$

$$\frac{5}{9} = \frac{10}{18} \quad (\text{ii})$$

$$\frac{1}{3} = \frac{6}{18} \quad (\text{iii})$$

$$\frac{5}{18} \quad (\text{iv})$$

$$\frac{5}{6} = \frac{20}{24} = (\text{نیمیں}) P \quad (\text{i}) \quad -50$$

$$\frac{1}{3} = \frac{8}{24} = (\text{سیمیں}) P \quad (\text{ii})$$

مشقی جانچ

احتمال

وقت: 1 گھنٹہ

کل نمبر: 20

Section-A

جب ایک پانسہ کو ایک مرتبہ پھینکا جاتا ہے تو 3 سے چھوٹا طاق عد د حاصل ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

- 0 (d) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{6}$ (a)

ایک تھیلے میں 5 لاال، 8 ہری اور 7 سفید گیندیں ہیں۔ تھیلے سے ایک گیند بلا منصوبہ طور پر نکالی گئی۔ اس بات کا احتمال کیا ہوگا کہ نکالی گئی گیند نہ تو ہری ہے نہ ہی لاال؟

اچھی طرح پھینٹی ہوئی تاش کے 52 پتوں کی گذاری سے ایک پتہ نکالا گیا۔ بغیر تصویر والا کارڈ حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔

ایک باکس میں کچھ کارڈ رکھے ہوئے ہیں جن پر 50, 7, 6, 5 اعداد درج ہیں۔ انہیں اچھی طرح ملایا گیا اور باکس میں سے ایک کارڈ کو بلا منصوبہ طور پر نکالا گیا۔ دوہندری عدد والا کارڈ حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔

Section-B

26 حروف تجھی میں سے ایک حرف کو بلا منصوبہ طور پر منتخب کیا گیا۔ اس بات کا احتمال معلوم کیجیے کہ حرف کو لفظ 'ASSASSINATION' سے منتخب کیا گیا ہے۔

ایک باکس میں رکھے ہوئے 400 بلب میں سے 15 بلب خراب ہے۔ باکس سے ایک بلب بلا منصوبہ طور پر نکالا گیا۔ اس بات کا احتمال کیا ہوگا کہ نکالا گیا بلب خراب نہیں ہے۔

لندن کے سال میں 53 جمعہ یا 3 سینچر ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔

Section-C

8۔ دش اور موکش دوست ہیں۔ اس بات کا احتمال کیا ہو گا کہ

(i) دونوں کا یوم پیدائش مختلف ہے

(ii) دونوں کا یوم پیدائش ایک ہی ہے (اوند کے سال کو نظر انداز کیجیے)

9۔ دو پانسوں کو ایک ساتھ پھینکا جاتا ہے۔ اس بات کا احتمال کیا ہو گا کہ دونوں اعداد کا حاصل جمع 4 کا ضعف ہے۔

Section-D

10۔ اچھی طرح پھینٹی ہوئی تاش کے 52 پتوں کی گذی میں سے دہلا، جوکر، رانی، بادشاہ اور اینٹ کا انکا نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس گذی میں سے ایک پتا بلا منصوبہ طور پر نکالا گیا۔ مندرجہ ذیل کے حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔

(a) نتوپان کا پتا اور نہ ہی بادشاہ

(b) یاتوپان کا پتہ یا حکم کا پتا

(c) نتولال رنگ کا پتا اور نہ ہی رانی

(d) کالے رنگ کا پتایا انکا

نظیری مطالعہ پرمنی سوالات

- ہمیتھ چیک اپسیپ کے دوران تین طرح کے مریضوں نے اپنا نام لکھا ۔ 60 مریض جوڑوں کے درد سے، 84 کسی قسم



کے بخار میں بٹلا اور 108 ذیابیطس (Diabetic) کے مریض تھے۔ منتظم اس سیکپ کے لیے ڈاکٹروں کو طلب کرنا چاہتا ہے۔

(i) اگر ہر ایک ڈاکٹر ایک قسم کے مسئلے کے مریضوں کی ایک ہی تعداد کا علاج کرے تو ڈاکٹروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کرتی ہے۔

12 (d) 16 (c) 14 (b) 64 (a)

ہر ڈاکٹر کتنے مریضوں کا علاج کریگا۔ (ii)

9 (d) 21 (c) 12 (b) 7 (a)

$\text{HCF}(48,60,72)$ کی قدر کیا ہے۔ (iii)

12 (d) 3 (c) 1 (b) 2 (a)

جوابات:

12 (d) (i)

21 (c) (ii)

$m = 2$ (a) (iii)

2- دپیکا اپنی برتھ کی پارٹی کا اہتمام کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اپنی سالگرہ پر خوش تھی۔ وہ صحت کے حوالے سے بہت زیادہ شعور رکھتی ہے، اس لیے اس نے صرف پہل پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے گھر میں 36 سیب اور 60 کیلے ہیں اور انہوں نے ان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مہمانوں میں پہل تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ وہ مہمانوں میں تفریق نہیں کرنا چاہتی اس لیے اس نے سب میں برابر تقسیم کرنا کا فیصلہ کیا۔



(i) دپیکا زیادہ سے زیادہ کتنے مہمانوں مدعو کر سکتی ہے؟

24 (d) 18 (c) 12 (b) 6 (a)

(ii) ہر ایک مہمان کو کتنے کیلے اور سیب میں گے؟

5 سیب 3 کیلے (b) 3 سیب 5 کیلے (a)

4 سیب 2 کیلے (d) 2 سیب 4 کیلے (c)

(iii) دپیکا نے اب ان 142 آموں کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب دپیکا زیادہ سے زیادہ کتنے مہمانوں کو مدعو کر سکتی ہے۔

(iv) اب ہر ایک مہمان کو کل کتنے پہل میں گے۔

کشیر کنیاں

را دھانے دیوالی کے موقع پر اپنے دروازہ کو پھولوں کے ہار سے سجا یا۔ ہر ایک ہار مکاف کی شکل میں تھا۔ 3-



(i) فرض کیجیے کہ دیجے ہوئے مختصر کی دو درجی کشیر کنیاں کو $ax^2 + bx + c$ ہے تو a، b، c میں ہوگا:

$$\leq 0 \quad (d) \quad > 0 \quad (c) \quad < 0 \quad (b) \quad > 0 \quad (a)$$

(ii) درجہ ذیل میں سے وہ درجی کشیر کنیاں کون سی ہے جس کے صفوں کا حاصل جمع اور حاصل ضرب بالترتیب
- اور -1 ہے۔


$$x^2 - x - 2 \quad (b) \quad x^2 + x + 2 \quad (a)$$

$$x^2 - x + 2 \quad (d) \quad x^2 + x - 2 \quad (c)$$

(iii) k کی کس قدر کے لیے درجی کشیر کنیاں کا ایک صفر 1 ہے۔

(iv) اگر α اور β کشیر کنیاں کے صفر ہیں تو $f(x) = x^2 - 7x + 12$ کی قدر معلوم کیجیے۔

ذیل کی تصویر یہ ابو لک شکل کی چند قدرتی مثالیں ہیں جن کی نمائندگی ایک چوکر کشیر اثنی سے کی جاتی ہے۔ پیر ابو لک آرچ ابو لک کی شکل میں ایک محراب ہے۔ ڈھانچے میں، ان کا اونک بوجھ کے ایک موثر طریقہ کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسی طرح پلوں اور فرن تعمیر میں مختلف شکلوں میں پایا جاسکتا ہے۔ 4-



دودرجی کشیرکنی میں ax^2+bx+c کیا ہے؟ (i)

سچی ناطق اعداد ہیں (a) سچی حقیقی اعداد ہیں (b)

ایک غیر صفر حقیقی عدد ہے نیز b اور c حقیقی عدد ہے۔ (c)

سچی صحیح اعداد ہیں (d)

وہ دودرجی کشیرکنی کون سی ہے جس کے صفر 4 اور 5 ہیں۔ (ii)

$$x^2-9x-20 \quad (b)$$

$$x^2-9x+20 \quad (a)$$

$$x^2+9x+20 \quad (d)$$

$$x^2+9x-20 \quad (c)$$

اگر α اور $\frac{1}{\alpha}$ دودرجی کشیرکنی $2x^2-8x+k$ کے صفر ہیں تو k کی قدر معلوم کیجیے۔ (iii)

ایک ایسی دودرجی کشیرکنی بنائیے جس کے صفر وں کا حاصل جمع p -اور حاصل p^{-1} ہے۔ (iv)

دو اسکول P اور Q نے دو کھیلوں کے لیے اپنے طلباء کو انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ ہا کی کے لیے x فی طالب علم اور کرکٹ کے لیے y فی طالب علم اسکول P نے دونوں کھیلوں کے لیے بالترتیب 5 اور 4 طلباء میں کل 95000 انعام تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا جب کہ اسکول Q نے دونوں کھیلوں کے لیے بالترتیب 4 اور 3 طلباء میں کل 7370 انعام کے طور پر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5-

درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

(i) مندرجہ بالا معلومات کو x اور y کے ارکان میں الجبری طور پر ظاہر کیجیے۔

(ii) ہاکی کے انعام کی رقم کیا ہے؟

یا

کون سے کھیل کے لیے انعام کی رقم زیادہ ہے اور کتنی؟

(iii) اگر دونوں میں سے ہر ایک کھیل میں 2 طلباء ہیں تو انعام کی رقم کیا ہو گی؟

6- اسکول کی ایئر یک کوڈ یعنی کرتے وقت استاد نے طلباء سے کہا کہ کسی فوٹو گراف کی لمبائی اور چوڑائی میں x یونٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو فوٹو گراف کا رقبہ دو گنا ہو جاتا ہے۔ اصل فوٹو کی لمبائی 18cm اور چوڑائی 12cm ہے۔

درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

(i) مذکورہ بالا معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے الجبری مساوات لکھیے۔

(ii) متعلقہ دور جی مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے۔

(iii) بڑے فوٹو کے نئے ابعاد معلوم کیجیے۔

یا

کیا x کی کوئی ناطق قدر نئے رقبے کو 220 cm^2 کر سکتی ہے؟

دودرجی مساوات

7- ناچل اور نہار یکا بہت گہرے دوست ہیں۔ دونوں خاندان اپنی گاڑیوں میں پالم پور پنک منانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نہار یکا کی کار سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ناچل کی کار نے 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں نہار یکا کی کار سے 4 گھنٹے زیادہ وقت لیا۔ فرض کریں کہ ناچل کی کار 'y' کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی تھی۔



نہاریکا کی کارنے دو گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کیا؟ (i)

(y-5)km (b) 2(y+5)km (a)

(2y+5)km (d) 2(y+10)km (c)

درج ذیل میں سے کون سی دور بجی مساوات نہاریکا کی کار کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے؟ (ii)

$y^2 - 4y + 400 = 0$ (b) $y^2 - 5y - 500 = 0$ (a)

$y^2 - 4y - 400 = 0$ (d) $y^2 + 5y - 500 = 0$ (c)

نکھل کی کار کی چال کتنی ہے؟ (iii)

نہاریکا کی فیملی کو سفر کمکل کرنے میں کتنا وقت لگا؟ (iv)

ایک فارما پنے گھر کے قریب 15 ارڈن میں اپنی بھیڑوں کے لیے ایک مستطیل 15 ول بارا بناانا چاہتا ہے۔ بارا بنانے کے لیے کسان نے اسے لکڑی کی باری سے بنانے کا منصوبہ بنایا تاکہ تینوں اطراف کا احاطہ کیا جاسکے۔ اس کے پاس تین اطراف کوڈھاپنے کے لیے 60 میٹر کا بارا لگانے کا مواد ہے اور دوسرا طرف انہوں کی دیوار ہے۔ 8-



(i) اگر بارے کی چوڑائی x ہے تو لمبائی کیا ہوگی؟

- | | | | |
|---------|-----|---------|-----|
| $2x+6$ | (b) | $60-2x$ | (a) |
| $20-6x$ | (d) | $6x+20$ | (c) |

(ii) دی ہوئی صورت حال کے مطابق (i) میں تحسیب کی گئی لمبائی کی مدد سے بارے کارقبہ معلوم کیجیے۔

- | | | | |
|------------|-----|------------|-----|
| $60x+2x^2$ | (b) | $60x^2-2x$ | (a) |
| $60x-2x^2$ | (d) | $6x-20x^2$ | (c) |

(iii) اگر بارے کارقبہ 250m^2 ہے تو دو درجی مساوات تکمیل دیجیے۔

(iv) اگر بارے کارقبہ 400m^2 ہے تو ممکنہ چوڑائی کیا ہوگی؟

9- دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی طلب اور رسد کے ساتھ، افراد کی کم قیمت اور مضبوط انجینئرنگ صلاحیتوں کی وجہ سے ہندوستان ایک مسابقتی مینوفیکچر نگ مقام کے طور پر ابھرا ہے۔ ایک فیکٹری میں پیداوار ہر سال ایک مقررہ تعداد سے یکساں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اگر پانچویں سال فیکٹری میں پیداوار 4100 یونٹس تھی جو کہ پہلے سال میں بڑھ کر 7600 یونٹ ہو گئی۔ دیئے گئے اعداد و شمار کے ساتھ درج ذیل سوالات کا جواب دیں:



(i) پہلے سال کا پروڈکشن معلوم کیجیے۔

- | | | | |
|-----------|-----|------------|-----|
| 400 units | (b) | 500 units | (a) |
| 700 units | (d) | 1300 units | (c) |

(ii) نویں اور ساتویں سال کے پروڈکشن کا فرق معلوم کیجیے۔

- | | | | |
|------------|-----|-----------|-----|
| 1400 units | (b) | 700 units | (a) |
| 2100 units | (d) | 350 units | (c) |

(iii) کسی مخصوص سال کے دوران پیداواری اکائیوں کو ظاہر کرنے کے لیے عمومی اصطلاح بتائیے۔

(iv) چوتھے سال سے لے کر دوسویں سال تک پیداواری اکائیوں کی کل تعداد معلوم کیجیے۔

10- جیسا کہ ہم جانتے ہیں اٹری یا پودے کو اگنے کے لیے سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ مٹی اور پانی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے پتوں اور پھل اگانے کے لیے اسے پانی اور سورج دونوں سے ضروری نہادیت حاصل ہوگی۔ لوگوں کے گروپ نے 20 درخت 10 میٹر کے مساوی فاصلے پر ایک لائن میں لگائے جس کے ایک سرے پر درخت سے 15 میٹر کے فاصلے پر پانی کی ٹینک رکھی گئی تھی۔ ہر روز گروپ کا ایک رکن پانی کی ٹینک سے شروع ہونے والے تمام درختوں کو الگ الگ پانی دیتا ہے اور ہر درخت کو پانی دینے کے بعد ٹینک میں واپس آتا ہے تاکہ ٹینک سے اگلے درخت کے لیے پانی حاصل کیا جاسکے۔



(i) نزدیک ترین درخت کو پانی دینے اور ٹینک تک واپس آنے میں ممبر کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ ہے:

- 40m (d) 7.5m (c) 30m (b) 15m (a)
- مذکورہ بالا صورت میں تصاعد ہے: (ii)
- | | | | |
|------------------|-----|------------------|-----|
| 30,40,50,60..... | (b) | 15,25,35,45..... | (a) |
| 15,35,55,75..... | (d) | 30,50,70,90..... | (c) |
- آخری درخت کو پانی دینے کے لیے ممبر کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ ہے۔ (iii)
- سچی درختوں کو پانی دینے کے لیے ایک دن میں ممبر کے ذریعے طے کیا گیا کل فاصلہ معلوم کیجیے۔ (iv)

مثال

برج خلیفہ دنیا کا سب سے اوپر ٹھانڈا اور ہے جو دنیٰ متحده عرب امارات میں واقع ہے۔ برج خلیفہ کی اوپرائی تقریباً 828 میٹر ہے اس میں دنیا میں سب سے زیادہ مشاہداتی ڈیک عوام کے لئے کھلا ہے۔ ڈیک پر چہل قدمی کرنے والے ایک شخص نے وہ برج خلیفہ کے سامنے اور قریب کی عمارتوں کا مشاہدہ کیا۔ ایک مثال میں، اس نے برج خلیفہ کے سامنے کی لمبائی 207 میٹر اور ایک عمارت A کے سامنے کی لمبائی 46 میٹر پائی۔ اس نے سوچا کہ کیا دیے گئے ڈیٹا سے عمارت کی اوپرائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر آپ کو گلتا ہے کہ اس کا حساب لگایا جاسکتا ہے تو برج ذیل سوالات کے جواب دیں۔



- عمارت A کی لمبائی معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی خصوصیت کا نام بتائیے۔ (i)

جس وقت برج خلیفہ کے سائز کی لمبائی 207m ہے اور اپنی عمارت B کے سائز کی لمبائی کیا ہوگی؟ (ii)

27m (d) 216m (c) 54m (b) 108m (a)

عمرت A کی اونچائی معلوم کیجئے۔ (iii)

جب عمارت B کے سائز کی لمبائی 81m ہے تو برج خلیفہ کے سائز کی لمبائی کیا ہوگی؟ (iv)

12- ہمیں صحت منداور تناو سے پاک رکھنے کے لیے باقاعدگی سے چہل قدمی ایک اچھی عادت ہے۔ رات کے لامبا نے کے بعد کچھ لوگ سوسائٹی پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے ایک شخص نے یہ پوسٹ سے روشنی کی وجہ سے چلنے پھرنے والے لوگوں کے متحرک سائز کو دیکھا اور ان کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ جیسے جیسے لوگ یہ پوسٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں سایہ کی لمبائی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی گروپ میں 180 سینٹی میٹر قدر کی نیہا بھی تھی جو یمانی سے بات کر رہی تھی اور 0.6 میٹر فی سینکنڈ کی رفتار سے 4.5 میٹر اونچی یہ پوسٹ سے دور جا رہی تھی۔



4 سینکنڈ کے بعد نیہا یہ پوسٹ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ (i)

2.4cm (b) 240cm (a)
60cm (d) 120cm (c)

3 سینکنڈ کے بعد نیہا کے سائز کی لمبائی کیا ہوگی؟ (ii)


0.9m (b) 0.6m (a)
1.8m (d) 1.08m (c)

(iii) کتنی مدت کے بعد نیہا کے سائے کی لمبائی 1.8m ہوگی؟

(iv) ایک وقت یامنی کے سائے کی لمبائی اس کی اوپرچاری کا 1.5m گناہ ہے۔ وہ لیپ پوسٹ سے کتنے فاصلے پر ہے؟

مختصر جیومیٹری

برلا سائنس میوزیم ملک کا پہلا سائنس اور شیکناںالوجی میوزیم ہے۔ جو 1954 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس میں سائنس اور شیکناںالوجی سے متعلق نمائشیں اور ڈسپلے رکھے گئے ہیں جہاں زائرین سائنس اور شیکناںالوجی کی سمجھ کو آسان اور تفریحی بنانے کے لیے نمائشوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ برلا سائنس میوزیم نے بچوں کے کمرے کو الگ کر دیا ہے جس میں چھت پر سیارے اور ستارے پر پینٹ کیے گئے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک خیالی کو آرڈینینٹ سسٹم کو کمرے کی چھت پر رکھا گیا ہے جس میں چھت کا مرکز $(0,0)$ ہے۔ تین خاص ستارے $(-8,3)$ ، $(-10,5)$ اور $(-7,-5)$ پر واقع ہیں۔ جہاں نقاط کمرے کے مرکز سے میٹر میں فاصلے کی نمائندگی کرتے ہیں۔



(i) $T(-10,5)$ اور $S(3,8)$ کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے؟

$2\sqrt{29}\text{m}$ (b) $4\sqrt{29}\text{m}$ (a)

$16\sqrt{3}\text{m}$ (d) $13\sqrt{2}\text{m}$ (c)

(ii) $R(-5,-7)$ اور $S(-8,3)$ کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے؟



$\sqrt{109}\text{m}$ (b) $4\sqrt{15}\text{m}$ (a)

$16\sqrt{3}\text{m}$ (d) $8\sqrt{15}\text{m}$ (c)

کون ساستارہ کمرہ کے مرکز سے سب سے زیادہ دور ہے؟ (iii)

T(5,-7) اور R(-5,10) کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے؟ (iv)

14۔ صبح کی اسکول کے شیڈول کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تقریباً تمام اسکول صبح کی اسکلیوں کا انعقاد کرتے ہیں جس میں دعائیں، حالیہ واقعات کی معلومات، متاثر کن خیالات، تقریر، قومی ترانہ وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اچھا اسکول ہمیشہ ان کے صبح کی اسکلی کے شیڈول کے بارے میں خاص ہوتا ہے۔ صبح کی اسکلی میں پنج کی نشوونما کے لئے اہم ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صبح کی مجلس صرف لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر دعائیں یا قومی ترانہ گانا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف دعاوں سے باہر کی چیز ہے۔ صبح کی اسکلی میں اسکول کے عملی اور طالب علم کی طرف سے کی جانے والی تمام سرگرمیاں زندگی کے ہر موڑ پر بہت اثر رکھتی ہیں۔ اسکول اسکلیوں میں شرکت کے ثبت اثرات زندگی بھر محسوس کیے جاسکتے ہیں۔



P کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے؟ (i)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 6 units (b) | 8 units (a) |
| $2\sqrt{3}$ (d) | $3\sqrt{3}$ (c) |

Q کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے؟ (ii)


- | | |
|-----------------|-----------------|
| 6 units (b) | 8 units (a) |
| $2\sqrt{3}$ (d) | $3\sqrt{3}$ (c) |

R کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے؟ (iii)

S کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے؟ (iv)

ٹرکنومیٹری

15۔ وائلر سلائڈ ڈایزائن: بیکھ میں وائلر سلائڈ کے ڈایزائن کا ایک حصہ دکھایا گیا ہے۔



(i) سلائڈ کے چھپے حصے کی لمبائی کیا ہے؟

- | | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| 22.16m | (b) | 44.69m | (a) |
| 34.18m | (d) | 16.34m | (c) |



(ii) سلائڈ کی کل لمبائی کیا ہے؟

- | | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 21.6m | (b) | 5.4m | (a) |
| 42.2m | (d) | 33.7m | (c) |

(iii) سلائڈ کی کل ترچھی اونچائی معلوم کیجئے۔

(iv) CD کی لمبائی معلوم کیجئے۔

16۔ ٹراس ایک ایسا ڈھانچہ ہے جو ممبروں پر مشتمل ہوتا ہے جو جڑے ہوئے مثلث میں منظم ہوتا ہے تاکہ مجموعی اسہمی ایک ہی شے کی طرح برداشت کرے۔ لپوں، چھتوں اور ٹاوروں میں ٹرنس سب سے پہلے مشترکہ طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ نیچے دکھائے گئے ٹراس کے لائن ڈایاگرام پر غور کریں اور درج ذیل لمبائی معلوم کریں۔



a کی لمبائی کیا ہے؟ (i)

- | | | | |
|--------|-----|-------|-----|
| 20m | (b) | 30m | (a) |
| 17.32m | (d) | 34.6m | (c) |

b کی لمبائی کیا ہے؟ (ii)


- | | | | |
|--------|-----|-------|-----|
| 20m | (b) | 30m | (a) |
| 17.32m | (d) | 34.6m | (c) |

c کی لمبائی معلوم کیجئے۔ (iii)

d کی لمبائی معلوم کیجئے۔ (iv)

اونچائی اور فاصلہ

h اونچائی پر پرواز کرنے والا ایک سیٹلا بٹ اتر اکھنڈ اور کرناٹک میں دو بلند ترین پہاڑوں کی چوٹی کو دیکھ رہا ہے، وہ ہیں نندادیوی (اونچائی 7,816 میٹر) اور ملایا گنیری (اونچائی 1,930 میٹر)۔ سیٹلا بٹ سے نندادیوی اور ملایا گنیری کی چوٹی کے زاویہ جھکا کے بالترتیب 30° اور 60° ہیں۔ اگر دونوں پہاڑوں کے درمیان فاصلے کے وسطی نظرے کے اوپر ہے تو۔ 17-



نندادیوی کی چوٹی سے سیٹلا بٹ کا فاصلہ ہے: (i)

- | | | | |
|-----------|-----|----------|-----|
| 577.52km | (b) | 1139.4km | (a) |
| 1025.36km | (d) | 1937km | (c) |

ملایا گنیری کی چوٹی سے سیٹلا بٹ کا فاصلہ ہے: (ii)


- | | | | |
|-----------|-----|----------|-----|
| 577.52km | (b) | 1139.4km | (a) |
| 1025.36km | (d) | 1937km | (c) |

(iii) زمین سے سیلہ لٹ کی اونچائی معلوم کیجیے۔

(iv) اگر راہل نندادیوی کے اساس سے 7816 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے تو نندادیوی کا زاویہ ارتقای معلوم کیجیے۔

18- مجسم اتحاد: یہ ہندوستانی سیاستدان ایک آزاد کارکن سردار و لیہ بھائی پیل کا ایک عظیم مجسم ہے، جو آزاد ہندوستان کے پہلے نائب وزیر اعظم اور پہلے وزیر اغلفہ تھے۔ پیل کو ہندوستان کی 562 شاہی ریاستوں کو متحد کرنے کے ہندوستان کی ایک واحد یونین بنانے کی قیادت کے لیے بہت عزت دی جاتی تھی۔ یہ ریاست گجرات میں واقع ہے اور یہ دنیا کا سب سے اونچا مجسم ہے۔

مجسم کی چوٹی کے قریب ہیلی کا پر میں ایک پولیس الہکار (مجسم کی اونچائی 182 میٹر ہے) مجسم سے کچھ فاصلے پر ایک کار کو دیکھ رہی ہے۔ اگر پولیس الہکار کی آنکھوں سے کار کا زاویہ جھکا 60° ہے۔ مجسم کی بنیاد کے مرکز سے کار کتنی دور ہے؟



(i) ایک شخص مجسم کے اساس کے مرکز سے 120 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ وہ مجسم کے اساس سے مجسم کا زاویہ ارتقائے 45° دیکھتا ہے۔ مجسم کی اونچائی معلوم کیجیے۔

- | | | | |
|------|-----|----------------|-----|
| 240m | (b) | 110m | (a) |
| 120m | (d) | $120\sqrt{3}m$ | (c) |

(ii) ایک شخص مجسم کے اساس کے مرکز سے x میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ وہ مجسم کے اساس سے مجسم کا زاویہ ارتقائے 30° دیکھتا ہے۔ اگر مجسم کی اونچائی $182m^2$ ہے تو x کی قدر معلوم کیجیے۔

- | | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| $364\sqrt{3}m$ | (b) | $182\sqrt{3}m$ | (a) |
|----------------|-----|----------------|-----|

$$\frac{182}{\sqrt{3}}m \quad (d)$$


$$91\sqrt{3}m \quad (c)$$

(iii) ہیلی کا پڑ میں سوار ایک سپاہی مجسمہ کے چوٹی کے نزدیک ہے۔ اور (مجسمہ کی اونچائی 182m ہے) مجسمہ سے کچھ فاصلے پر ایک کار دیکھتا ہے۔ اگر سپاہی کی آنکھ سے کار کا زاویہ جھکا 60° ہے تو کار مجسمہ کے اساس کے مرکز سے کتنے فاصلے پر ہے؟

(iv) ہیلی کا پڑ میں سوار ایک سپاہی مجسمہ کے چوٹی کے نزدیک ہے۔ اور (مجسمہ کی اونچائی 182m ہے) مجسمہ سے کچھ فاصلے پر ایک کار دیکھتا ہے۔ اگر سپاہی کی آنکھ سے کار کا زاویہ جھکا 60° ہے تو کار مجسمہ کے اساس کے مرکز سے کتنے فاصلے پر ہے؟

داڑہ کا خط مماس

فیرس و ہیل (یونانی میڈنگلام میں ایک بڑا پہیہ) ایک تفریجی سواری ہے جس میں گھونمنے والا سیدھا پہیہ ہوتا ہے جس میں مسافروں کو لے جانے والے متعدد اجزاء ہوتے ہیں (جیسے عام طور پر مسافر کاریں، کیپین، ٹب کپسول، گونڈولاس یا (poqs) کہا جاتا ہے۔ کنارے کو اس طرح سے کہ جیسے ہی پہیہ موڑتا ہے وہ سیدھا رکھا جاتا ہے، عام طور پر کشش ثقل کے ذریعے۔ فیرس و ہیل میں سواری لینے کے بعد آرتی بھیڑ سے باہر آئی اور اپنے دوستوں کو دیکھ رہی تھی جو سواری سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ مختلف زاویوں اور اقدامات کے بارے میں مجسس تھی کہ وہیل کیسے بنے گی۔ وہ شکل بناتی ہے جیسا کہ ذیل میں دیا گیا ہے۔



(i) دی ہوئی شکل میں $\angle ROQ$ معلوم کیجئے۔

- 90° (d) 150° (c) 120° (b) 60° (a)


(ii) دی ہوئی شکل میں $\angle RQP$ معلوم کیجئے۔

- 90° (d) 30° (c) 60° (b) 75° (a)

(iii) دی ہوئی شکل میں $\angle RSQ$ معلوم کیجئے۔

(iv) دی ہوئی شکل میں $\angle ORP$ معلوم کیجئے۔

20. درون کو اس کے اسکول نے طباء اور عملے کے لیے اسپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے لیے لوگوں کو ڈائریکٹ کرنے کے لئے منتخب کیا ہے۔ لوگوں کا ڈائریکٹ کے تصور میں دیا گیا ہے اور وہ تھیم کے مطابق فونٹس اور مختلف رنگوں پر کام کر رہا ہے۔ دی گئی شکل میں مرکز O کے ساتھ ایک دائیہ ایک مثلث ABC میں لکھا ہوا ہے، اس طرح کہ یہ اضلاع PS اور CA کو بالترتیب D اور نقطہ F پر چھوتا ہے۔ اضلاع BC, PS اور CA کی لمبائی بالترتیب 12 سینٹی میٹر، 8 سینٹی میٹر اور 10 سینٹی میٹر ہے۔



(i) AF کی لمبائی معلوم کیجئے۔

- 9 (d) 5 (c) 8 (b) 7 (a)

(ii) BD کی لمبائی معلوم کیجئے۔

- 9 (d) 2 (c) 5 (b) 8 (a)

(iii) CE کی لمبائی معلوم کیجئے۔

(iv) اگر دائرہ نصف قطر 4 سینٹی میٹر ہے تو ΔOAB کا رقبہ معلوم کیجئے۔

دائرہ سے متعلق رقبہ

21۔ ایک اسکول کے فنچن/تقریب میں منتظمہ کمیٹی اپنے ہونہار طلباء کو نقد انعام کے ساتھ ایک میمنشو دینا چاہتی ہے۔ میمنشو کو درض ذیل شکل کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اس کے اساس (قاعده) ABCD کو سامنے کی جانب سے دکھایا گیا ہے۔ اس پر چاندی کی ملع کاری 20₹ فی مرلے سینٹی میٹر کی شرح سے کرائی گئی ہے۔

درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

(i) مرلے ODCO کا رقبہ معلوم کیجیے۔


(ii) ΔAOB کا رقبہ معلوم کیجیے۔

(iii) قوس CD کی لمبائی معلوم کیجیے۔

یا

سا یہ دار حصہ پر چاندی کی ملع کاری پر کتنا خرچ آئے گا؟

22۔ ایک بھینس، ایک گائے اور ایک گھوڑا ایک مثلث نما کھیت کے راسوں پر کھونٹے سے بندھے ہیں۔ کھیت کے اضلاع 24 میٹر، 7 میٹر اور 35 میٹر ہیں۔ رسی کی لمبائی 3.5 میٹر ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔



مشتمل نما گھاس کے میدان کا رقبہ کیا ہے؟ (i)

168sq.m (b) 84sq.m (a)

87.5sq.m (d) 175sq.m (c)

گھوڑے اور گائے کے چرے گئے رقبہ کے ذریعے بنایا گیا جمکنی زاویہ کیا ہوگا۔ (ii)

متعین کرنا ممکن نہیں (d) 60° (c) 90° (b) 45° (a)

کھیت کا وہ رقبہ معلوم کیجئے جس میں بھیس چکتی ہے۔ (iii)

اگر رسی کی لمبائی 3.5m کے بجائے 3m کرداری جائے تو چرے جانے والے رقبہ میں کتنی کمی آئے گی۔ (iv)

سطحی رقبہ اور حجم

-23 ایک کمیٹی نے درگاہ پوجا کی تقریبات کو 35m نصف قطر والے ایک دائری پارک میں منانے کا فیصلہ کیا۔ کمیٹی نے ایک ٹینیٹ ہاؤس کو ٹینیٹ لگانے کا ٹھیکہ دیا۔ آرکیٹیکٹ نے ایک ایسے کیوس ٹینیٹ کا ڈیزائن تیار کیا جو کھلے ہوئے مکعب نما کے اوپر ہم

استوانی چھت کی شکل کا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیلی اساس کے ابعاد $21m \times 5m$ ہیں اور ٹینٹ کی کل اونچائی $19m$ ہے۔



ذیل سوالوں کے جواب دیجیے:

(i) خیمہ کے کعب نما کی شکل والے حصہ کی اونچائی کیا ہے؟

- | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| 15m | (d) | 11.5m | (c) | 8.5m | (b) | 19m | (a) |
|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|


(ii) خیمہ کے باہر والے پارک کا رقبہ ہے؟

- | | | | |
|----------|-----|----------|-----|
| 3850sq.m | (b) | 2800sq.m | (a) |
| 1570sq.m | (d) | 1050sq.m | (c) |

(iii) اگر کینوس کو 4 روپے فی مربع میٹر کی شرح سے خریدا جائے تو کینوس کی کل قیمت معلوم کیجیے۔

(iv) خیمہ میں موجود ہوا کے جم معلوم کیجیے۔

24۔ کھلونوں کی دکان میں لکڑی کے پروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور کھلونا فل شاپ تیار کرنے کے لیے پینٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک مخصوص کھلونا استوانہ پر نصب مخروط کی شکل میں ہے۔



وڈ پوسٹنگ سٹر کے لیے، لکڑی کو محفوظ کرنے کے لیے اسٹورنچ سے باہر نکالا جاتا ہے، جس کے بعد اسے کچا پاش کیا جاتا ہے، پھر اسے کٹ کر ڈرل کیا جاتا ہے اور اس میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسے سینٹ پیپر کا استعمال کر کے باریک پاش کیا جاتا ہے اور پھر پینٹ کے ذریعے سجا جاتا ہے۔ کھلونے کی کل اونچائی 26 سینٹی میٹر اور مخروطی حصے کی اونچائی 6 سینٹی میٹر ہے۔ مخروطی حصے کے قاعده کا قطر 5 سینٹی میٹر ہے اور استوانی حصے کا قطر 4 سینٹی میٹر ہے۔ مندرجہ ذیل معلومات کی بنیاد پر درج ذیل سوالوں کا جواب دیں۔

مذکورہ بالامعلومات کی بنیاد پر درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

(i) اگر استوانی حصے پر پیلا رنگ کیا جائے تو کتنے سطحی رقبے پر رنگ کرنا ہوگا؟

- | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| $82\pi \text{ sq.cm}$ | (b) | $80\pi \text{ sq.cm}$ | (a) |
| $88\pi \text{ sq.cm}$ | (d) | $84\pi \text{ sq.cm}$ | (c) |

(ii) اس کھلونے کو بنانے میں استعمال ہونے والی لکڑی کا حجم ہے:


- | | | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| $89.5\pi \text{ cu.cm}$ | (b) | $92.5\pi \text{ cu.cm}$ | (a) |
| $72.5\pi \text{ cu.cm}$ | (d) | $85.5\pi \text{ cu.cm}$ | (c) |

(iii) 3 پیسے فی مرلے سینٹی میٹر کی شرح سے کھلونے پر رنگ کرنے کا خرچ معلوم کیجیے۔

(iv) اگر پینٹ کمپنی 5% کی رعایت دیتی ہے تو 200 کھلونوں پر رنگ کرنے کا خرچ معلوم کیجیے۔

25۔ طالب علم۔ استاد کا تناسب: طالب علم۔ استاد کا تناسب کسی اسکول میں داخل ہونے والے طلباء کی تعداد اور اس اسکول میں استاذہ کی تعداد کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وجہات کی بنا پر اہم ہے۔ مثال کے طور پر، یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بچے کو کتنی انفرادی توجہ دی جاسکتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تمام کلاسوں کا سائز ایک جیسا نہیں ہوگا۔ مندرجہ ذیل تقسیم ہندوستان کے اعلیٰ ثانوی اسکولوں (صرف 28 ریاستیں اور 7 UTs) میں ریاست کے

لماڑ سے طالب علم۔ استاد کا تناسب دیتی ہے۔



نی اسٹاڈ ٹلبکی تعداد	ریاستوں / UT کی تعداد
15-20	3
20-25	8
25-30	9
30-35	10
35-40	3
40-45	0
45-50	0
50-55	2

براح راست طریقہ سے درمیانہ معلوم کرنے کے لیے ہم کون سے فارمولے کا استعمال کرتے ہیں؟ (i)

$$\frac{n}{\sum_i^n f_i x_i} \quad (b)$$

$$\frac{\sum_i^n f_i x_i}{n} \quad (a)$$

$$n + \sum_i^n f_i x_i \quad (d)$$

$$n \times \sum_i^n f_i x_i \quad (c)$$

وسطانیہ معلوم کرنے کا فارمولہ ہے: (ii)

$$h + \frac{\frac{n}{2} - f}{c.f} \times l \quad (b) \quad l + \frac{\frac{n}{2} - f}{c.f} \times h \quad (a)$$

$$\frac{l + \frac{n}{2} - c.f}{f} \times h \quad (d) \quad l + \frac{\frac{n}{2} - c.f}{f} \times h \quad (c)$$

30-45 اور 50-55 کا اوسط کلاس مارک معلوم کیجیے۔ (iii)

مذکورہ بالا اعداد و شمار کا درمیانہ معلوم کیجیے۔ (iv)

شماریات

26- 2020 ٹوکیوں اولمپک میں 200m کی مردوں کی دوڑ کا انعقاد 3 اور 4 اگست کو کیا گیا۔ ایتھلیٹ کے ایک گروپ کے ذریعے 200m کی دوڑ میں لگنے والے وقت کی پیمائش کے لیے اسٹاپ واج کا استعمال کیا گیا۔



وقت (سینٹ)	طلبا کی تعداد
80-100	3
60-80	6
40-60	13
20-40	10
0-20	8

منٹ کے وقفہ میں دوڑ کو مکمل کرنے والے طلباء کی تعداد ہے: (i)


- 13 (d) 31 (c) 8 (b) 10 (a)

وسطانیہ کلاس اور موڈل کلاس کی اوسط زیر یہیں حد ہے: (ii)

- 40 (d) 60 (c) 50 (b) 30 (a)
- (iii) دو مکمل کرنے کے لیے طلبہ کے ذریعے لیے گئے وقت کا درمیانہ معلوم کیجیے۔
 (iv) مذکورہ بالا اعداد و شمار کا مودع معلوم کیجیے۔

احتمال

درج ذیل کامطالعہ کیجیے اور سوال نمبر (i) تا (iv) کے جواب دیجیے۔ 27
 عائشہ نے 52 پتوں کی ایک گڈی لی۔ اس نے تصویر والے سبھی پتوں کو نکال کر الگ کر دیا اور باقی بچے ہوئے پتوں کو اچھی طرح پھینٹا۔



- (i) چڑی کا پتایا عدد 4 والے کارڈ کے لیے موافق نتائج کی تعداد ہے:
- 12 (d) 14 (c) 17 (b) 13 (a)
- (ii) اچھی طرح سے چھینٹی ہوئی گڈی سے اس نے ایک پتا نکالا۔ اس بات کا احتمال کیا ہوگا کہ نکالا گیا پتا لال رنگ کا ہے؟
- $\frac{2}{13}$ (d) $\frac{4}{13}$ (c) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$ (a)
- (iii) کالے رنگ کی رانی والا پتا حاصل ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔
- (iv) اس بات کا احتمال کیا ہوگا کہ نکالا گیا پتا نہ تو کالے رنگ کا ہے اور نہ ہی انکا ہے۔

28۔ آکری اور سکرتی کو بودھ کا گیم شروع کرتا ہے۔ وہ اس بات پر جھگٹر رہی ہیں کہ گیم کون شروع کرے گا۔ انہوں نے تین سکے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ گیم کون شروع کرے گا تینوں سکوں کو ایک ساتھ اچھا لئے کافی صلہ کیا۔



ناتج کی ممکنہ تعداد ہے:

- 4 (d) 2 (c) 6 (b) 8 (a)

تین سکوں کو ایک ساتھ اچھا لئے پر 3 ٹیل حاصل ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

- 1/6 (d) 7/8 (c) 1/8 (b) 1/4 (a)

آکرتی کہتی ہے کہ اگر مجھے کم از کم ایک ہیڈ حاصل ہو جائے تو میں جیت جاؤں گی اور گیم شروع کروں گی۔
احتمال معلوم کیجیے کہ آکرتی گیم شروع کرے گی۔

سکرتی کا کہنا ہے کہ اگر مجھے 1 ٹیل حاصل ہو جائے تو میں گیم شروع کروں گی۔ احتمال معلوم کیجیے کہ سکرتی گیم
شروع کرے گی۔

جوابات

1. (i) (d) 12

- (ii) (c) 21
(iii) 15 Patients
(iv) $m = 2$
2. (i) (b) $HCF(36,60) = 12$. Thus fruits will be equally distributed among 12 guests.
(ii) (a) each guest will get $(36 \div 12) = 3$ apples and $(60 \div 12) = 5$ bananas.
(iii) $HCF(36,42,60) = 6$. Thus fruits will be equally distributed among 6 guests.
(iv) each guest will get $(36 \div 6) = 6$ apples, $(42 \div 6) = 7$ mangoes, and $(60 \div 6) = 10$ bananas. Thus each guest will get $6+7+10 = 23$ fruits.
3. (i) (a) >0
(ii) (c) $x^2 + x - 2$
(iii) Put $x = -1$ to get ' k ' = 5
(iv) $\alpha + \beta = 7$ and $\alpha\beta = 12$
 $1/\alpha + 1/\beta = (\alpha + \beta)/\alpha\beta = 7/12$
4. (i) (c) 'a' is a non-zero real number and b and c are any real numbers.
(ii) (d) $x^2 + 9x + 20$
(iii) ' k ' = $1/4$
(iv) $k(x^2 + px - 1/p)$
5. (i) (b) 65, 55
(ii) (a) 55
(iii) $x + 4y = 315$
(iv) 380 cubic units
6. (i) (d) $x + ny = 16$
(ii) (c) $x + 4y = 22$
(iii) Put $x = ₹ 10$ and $y = ₹ 3$
(iv) for Ayush $x + 6y = 28$ and for Sonali $x + 4y = 22$
7. (i) (a) $2(y+5)$ km
(ii) (c) $y^2 + 5y - 500 = 0$
(iii) speed = 20 km/h
(iv) time = 16 hours
8. (i) (a) $60 - 2x$

- (ii) (d) $60x - 2x^2$
(iii) $x^2 - 30x + 125 = 0$
(iv) width could be 10 m or 20 m
9. (i) (c) 1300 units
(ii) (b) 1400 units
(iii) $a_n = 600 + 700n$
(iv) 38500 units
10. (i) (b) 30m
(ii) (c) 30, 50, 70, 90.....
(iii) 410 m
(iv) 4400 m
11. (i) Similarity of triangles
(ii) (d) 27m
(iii) 184 m
(iv) 621m
12. (i) (a) 240cm
(ii) (b) 10.9m
(iii) 3.6m
(iv) 5.4m
13. (i) (c) $13\sqrt{2}m$
(ii) (b) $\sqrt{109}m$
(iii) T
(iv) $\sqrt{109}m$
14. (i) (c) $3\sqrt{3}$ units
(ii) (b) 6 units
(iii) 6 units
(iv) $3\sqrt{2}$ units
15. (i) (c) 14.34m
(ii) (c) 33.7m
(iii) 19m

- (iv) 10.2m
16. (i) (b) 20m
(ii) (d) 17.32m
(iii) 30m approx
(iv) 34.04m
17. (i) (c) 1136.4km
(ii) (c) 1937km
(iii) 8385.7km
(iv) 45°
18. (i) (d) 120m
(ii) (d) 107m approx
(iii) 107m approx
(iv) 214m approx
19. (i) (b) 120°
(ii) (b) 60°
(iii) 60°
(iv) 60°
20. (i) (a) 7m
(ii) (b) 5m
(iii) 3m
(iv) 20m^2
21. (i) (b) 8.5cm
(ii) concentric circles
(iii) 132cm^2
(iv) 505.20cm
22. (i) (a) 84m^2
(ii) (b) 90°
(iii) 9.625m^2
(iv) 5.11m^2
23. (i) (b) 8.5m
(ii) (a) 2800m^2
-

- (iii) Rs. 11407
(iv) 17587.5 m^3
24. (i) (c) $84\pi \text{ sq.cm}$
(ii) (a) $92.5 \pi \text{ cu.cm}$
(iii) Rs. 9.65 approx
(iv) Rs. 1833.50
25. (i) (a) $\frac{\sum_i^n fxi}{n}$
(ii) (c) $l + \frac{\frac{n}{2} - c.f}{f} \times h$
(iii) 37.5
(iv) 28.21 approx
26. (i) (c) 31
(ii) (d) 40
(iii) 43 seconds
(iv) 40 seconds
27. (i) (a) 13
(ii) (a) $1/4$
(iii) 0
(iv) $18/40$ or $9/20$
28. (i) (a) 8
(ii) (b) $1/8$
(iii) $7/8$
(iv) $\frac{4}{8}$ or $\frac{1}{2}$

دعویٰ (A) اور وجہ (R) والے سوالات

نوت: ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں اس میں سے ایک بیان کو دعویٰ (A) اور دوسرے کو وجہ (R) کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بیانات کو پڑھیے اور درست جواب کا انتخاب کیجیے۔

(a) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں درست ہیں اور وجہ (R) (دعویٰ (A)) کی درست وضاحت ہے۔

(b) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں درست ہیں اور وجہ (R) (دعویٰ (A)) کی درست وضاحت نہیں ہے۔

(c) دعویٰ (A) صحیح ہے لیکن وجہ (R) غلط ہے۔

(d) دعویٰ (A) غلط ہے اور وجہ (R) درست ہے۔

$$\frac{\text{HCF}(ab) \times \text{LCM}(ab)}{a \times b} = 1 \quad \text{دعویٰ (A)} \quad -1$$

$$\text{HCF } (a,b) \times \text{LCM } (ab) = a \times b \quad \text{وجہ (R)}$$

$$\text{HCF } (26,169) = 13, \text{ LCM } (26,169) = 338 \quad \text{اگر دعویٰ (A)} \quad -2$$

$$\text{HCF } (ab) \times \text{LCM } (ab) = a \times b \quad \text{وجہ (R)}$$

$$\text{دوہم مفرد اعداد کا } \text{HCF} = 1 \text{ ہے۔} \quad \text{دعویٰ (A)} \quad -3$$

ایسے دواعداد، جن کا مشترک جزو ضریبی صرف 1 ہوتا ہے، ہم مفرد اعداد کہلاتے ہیں۔

ہر غیر مفرد عدد کو مفرد اعداد کے حاصل ضرب کے طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$11 \times 4 \times 3 \times 2 + 4 \quad \text{وجہ (R)}$$

$$\text{دواعداد کا LCM} = 1200 \text{ ہے۔ ان کا HCF } 500 \text{ نہیں ہو سکتا۔} \quad \text{دعویٰ (A)} \quad -5$$

دویادو سے زیادہ اعداد کا LCM بیشہ ان کے HCF سے مقابل تقسیم ہوتا ہے۔


اگر دو راجی کثیر کرنی $ax^2 - 2kx + 8$ کے صافوں کا حاصل جمع 2 ہے تو k کی قدر 1 ہے۔

$$\text{دو راجی کثیر کرنی } ax^2 + bx + c \text{ کے صافوں کا حاصل جمع } \frac{-b}{a} \text{ ہوتا ہے۔} \quad \text{وجہ (R)}$$

- 1 دعویٰ(A): اور $x^2 - 3x - 4$ کے صفر ہیں۔
وجہ(R): حقیقی عدد p کو کشیر کرنی (x) کا صفر کہا جاتا ہے۔ اگر $p(k) = 0$ ہے۔
- 2 دعویٰ(A): دودرجی کشیر کرنی (x) کا گراف x -محور کو نقطوں پر قطع کرتا ہے۔
وجہ(R): دودرجی کشیر کرنی کی ڈگری 2 ہے۔
- 3 دعویٰ(A): مساواتوں کی جوڑی $0 = 4x - 8y + 20$ اور $0 = ax + 2y + 5$ کے لامتناہی حل ہیں۔
وجہ(R): ہے تو مساواتوں کی جوڑی کے لامتناہی حل ہوتے ہیں۔
- 4 دعویٰ(A): مساواتوں کی جوڑی $0 = 3x - 6y + 1$ اور $0 = ax + 2y + 5$ کا یکتا حل ہے۔
وجہ(R): ہے تو مساواتوں کی دی ہوئی جوڑی کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔
- 5 دعویٰ(A): ایک دودرجی مساوات ہے۔
وجہ(R): $(x-2)^2 + 1 = 2x - 3$ یہ $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ کی شکل میں نہیں ہے۔
- 6 دعویٰ(A): دودرجی مساوات $0 = 2x^2 - 4x + 3 = 0$ کا ممیز (D) $= -8$ ہے اور اس کے جزر حقیقی نہیں ہیں۔
وجہ(R): اگر $0 < D = b^2 - 4ac$ ہے تو جزر حقیقی نہیں ہیں۔
- 7 دعویٰ(A): مساوات $0 = Tx^2 + x - 1$ کے جزر حقیقی اور منفرد ہوتے ہیں۔
وجہ(R): اگر $0 > D = b^2 - 4c$ ہے تو جذر حقیقی اور منفرد ہوتے ہیں۔
- 8 دعویٰ(A): مساوات $0 = 9x^2 + 3kx + 4 = 0$ کے لیے مساوی جذر ہوں گے۔
وجہ(R): دودرجی مساوات کا ممیز (O) صفر ہے تو مساوات کے جذر حقیقی اور مساوی ہوتے ہیں۔
- 9 دعویٰ(A): a, b, c تصاعد (AP) میں ہیں اگر صرف اور صرف $c = a + 2b$ ہے۔
وجہ(R): پہلے n طاق اعداد کا حاصل جمع n^2 ہے۔
- 10 دعویٰ(A): اگر AP کے پہلے n ارکان کا حاصل جمع $Sn = Sn^2 + 3n$ ہے۔ تو AP کا n وال رکن $9n = 10n - 2$ ہے۔
وجہ(R): n وال رکن $(n-1)$ کے طور پر لکھا جاسکتا ہے۔

اگر $a + b = 12$ اور $3 - AP = b - a$ میں ہیں تو $\frac{b-a}{n-1}$ ہو گا۔ دعویٰ (A) :- 17

اگر AP کا پہلا رکن 'a' اور n واسی رکن 'b' ہے تو مشترک فرق $\frac{b-a}{n-1}$ ہو گا۔ وجہ (R) :-



$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$ میں خط $DE \parallel BC$ کو پرقطع کرتا ہے تب ΔABC دعویٰ (A) :- 19

اگر مثلث کے ایک ضلع کے متوازی خط کھینچا جائے تو یہ دیگر اضلاع کو ایک ہی نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔ وجہ (R) :-

مثلث کے کوئی دو اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملانے والا قطع خط تیرے ضلع کے متوازی ہوتا ہے۔ دعویٰ (A) :- 20

مثلث کے ایک ضلع کے نقطہ سے دوسرے ضلع کے متوازی کھینچا گیا خط تیرے ضلع کی تقسیف کرتا ہے۔ وجہ (R) :-

سبھی مماثل مثلث مشابہ ہوتے ہیں لیکن مشابہ مثلث مماثل نہیں ہوتے۔ دعویٰ (A) :- 21

اگر دو مثلثوں کے نظیری اضلاع تناسب میں ہیں تو وہ مشابہ ہوں گے۔ وجہ (R) :-

اگر دو مثلثوں کے نظیری اضلاع تناسب میں ہیں تو ان کے نظیری زاویے مساوی ہوتے ہیں اور دونوں مثلث مشابہ ہوتے ہیں۔ دعویٰ (A) :- 22

اگر مثلث کے زاویہ کا ناصف مقابل ضلع کی تقسیف کرتا ہے تو مثلث مساوی الساقین ہے۔ وجہ (R) :-

نقطہ $P(0,2)$ کا $3x+2y = 4$ کا نقطہ تقاطع ہے۔ دعویٰ (A) :- 23

نقطہ $P(0,2)$ کا y -محور سے فاصلہ 2 کاٹی ہے۔ وجہ (R) :-

اگر نقطہ $A(4,3)$ اور $B(x,5)$ اور مرکز $O(2,3)$ والے دائرہ پر واقع ہیں تو x کی قدر 2 ہے۔ دعویٰ (A) :- 24

دائرہ کا مرکز دائرہ کے ہر ایک وتر کا وسطی نقطہ ہوتا ہے۔ وجہ (R) :-

- p کی قدر 4 ہے جس کے لیے نقطہ (4,-4) اور (10,p) کے درمیان کا فاصلہ 11 اکائی ہے۔ دعویٰ(A): -25
 تین نقطے A, B, C اور تم خط ہوتے ہیں اگر $AB + BC = AC$ وجہ(R):
- $\cose \theta + \cot \theta - \cot \theta < 0$ کے لیے $Q \leq 90^\circ$ ایک دوسرے کے مقابلہ ہوتے ہیں۔ دعویٰ(A): -26
- $\cose^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$ وجہ(R):
- $2\cos^2 A - 1 = (\cose^4 A - \sin^4 A)$ دعویٰ(A): -27
 اور A کا حاصل ضرب ہے۔ وجہ(R):
- $Cot \theta = \frac{5}{12}$ اور $Cos R = \frac{5}{13}$ میں زاویہ قائم ہے، اگر ΔPQR دعویٰ(A): -28
 میں اضافے کے ساتھ $\cose \theta$ کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ وجہ(R):
- $\sin^2 \theta + \sin \theta^{-4} = 1$ ہے تو $\cos \theta + \cos^2 \theta = 1$ اگر دعویٰ(A): -29
 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ کی سبھی قدروں کے لیے ہے۔ وجہ(R):
- ایک سیڑھی زمین سے 18 میٹر اور واقع کھڑکی کے ساتھ 60° کے زاویہ پر لگی ہوئی ہے۔ سیڑھی کی لمبائی 9m ہے۔ دعویٰ(A): -30
- فیٹانگرٹ کے مسئلہ کے مطابق $p^2 + b^2 = h^2$ جب کہ h وتر، p عمود اور b قاعدہ ہے۔ وجہ(R):
- کسی وقت ایک عمارت کی اونچائی اور اس کا سایہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہیں سورج کا زاویہ ارتفاع 45° ہے۔ دعویٰ(A): -31
 کی قدر $\tan 45^\circ$ وجہ(R):
- دائرہ پر خط مماس نقطہ مماس سے دائرة کے نصف قطر پر عمود ہوتا ہے۔ دعویٰ(A): -32
 کسی بیرونی نقطہ سے دائرة پر کھینچنے گئے مماس کی لمبائی مساوی ہوتی ہے۔ وجہ(R):
- اگر PA اور PB بیرونی نقطہ P سے مرکز O والے دائرة پر کھینچنے گئے مماس ہیں تو چار ضلعی AOBP دعویٰ(A): -33
 دائیری ہے۔

- بجہ (R): بیرونی نقطہ سے دائرہ پر کھینچ گئے دو مماس کے درمیان کا زاویہ نقطہ مماس کو مرکز سے جوڑنے والے قطعہ خط کے ذریعے بنائے گئے زاویہ کا تکملہ ہوتا ہے۔
- بجہ (A): دعویٰ (A): بیرونی نقطہ سے دائرہ پر کھینچ گئے مماس کے درمیان کا زاویہ نقطہ مماس کو مرکز سے جوڑنے والے قطعہ خط کے ذریعے بنائے گئے زاویہ کا تکملہ ہوتا ہے۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): دائرہ کا مماس نقطہ مماس سے کھینچ گئے نصف قطر پر عمود ہوتا ہے۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): ایک نقطہ P سے جو کہ دائرہ کے مرکز سے 10cm کے فاصلہ پر ہے، 8cm لمبائی کا خط مماس کھینچا گیا ہے، دائرہ کا نصف قطر 5cm ہے۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): دائرہ کے نصف قطر کے ایک سرے سے اس پر عمودی کھینچا گیا خط دائرہ پر مماس ہوتا ہے۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): اگر دائرہ کا محیط 176cm ہے تو اس کا نصف قطر 28cm ہوتا ہے۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): دائرہ کا محیط $2\pi r$ ہوتا ہے۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): 6cm نصف قطر والے دائرہ میں سیکٹر کا زاویہ 60° ہے۔ سیکٹر کا رقبہ $\frac{6}{7} cm^2$ 18 ہوگا۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): تنصیف قطر والے دائرہ کا رقبہ πr^2 ہوتا ہے۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): اگر 22cm لمبائی والے تار کو دائرہ کی شکل میں موڑا جاتا ہے تو اس دائرہ کا رقبہ $38.5cm^2$ ہوتا ہے۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): دائرہ کا رقبہ = تار کی لمبائی
- وجہ (R): دعویٰ (A): دائرہ کے قوس کی لمبائی $2\pi cm$ ہے، اگر دائرہ کا نصف قطر $4cm$ اور قوس کے ذریعے دائرہ کے مرکز پر بنایا گیا زاویہ 90° ہے۔
- وجہ (R): دعویٰ (A): $\frac{\pi r \theta}{360^\circ}$ قوس کی لمبائی
- وجہ (R): دعویٰ (A): $AQ^2 cm^2$ ، مثل والے کھلوکھلے مکعب سے کاٹ کر کا لے جانے والے بڑے کردہ کا سطحی رقبہ
- وجہ (R): دعویٰ (A): $r cm$ نصف قطر والے کردہ کا سطحی رقبہ $4\pi r^2$ ہوتا ہے۔

دعویٰ(A): رقبہ والے کرہ کا قطر 7 cm^2 ۔ -41

وجہ(R): r نصف قطر والے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi r^2$ ہوتا ہے۔

دعویٰ(A): مکعب کے وتر کی لمبائی $\sqrt{3}\text{cm}$ ॥ ہوگی اگر اس کا حجم 1331cm^3 ہے۔ -42

وجہ(R): مکعب کا حجم a^3 ہوتا ہے اگر اس کا ایک ضلع 'a' ہے۔

دعویٰ(A): مکعب سے کاٹ کر بنالے گئے سب سے بڑے قائم دائری مخروط کی اونچائی 729cm^3 ہے۔ -43

9cm

وجہ(R): قائم دائری مخروط کا حجم $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہوتا ہے جہاں r مخروط کا نصف قطر اور h اونچائی ہے۔

دعویٰ(A): ایک بٹاؤ کا درمیانہ اور سلطانیہ بالترتیب 169 اور 170 ہیں تو موڈ (بہتاتیہ) 172 ہوگا۔ -44

وجہ(R): (درمیانہ) $\times 2$ - (سلطانیہ) $\times 3 =$ موڈ

دعویٰ(A): پہلے 11 قطری مفرد اعداد کا سلطانیہ 13 ہے۔ -45

وجہ(R): سلطانیہ = مشاہدات کی تعداد طاقت عدد ہے۔ $\left(\frac{n+1}{2}\right)^{th}$

دعویٰ(A): موڈ اور سلطانیہ کے درمیان کا فرق 12 ہے اگر سلطانیہ اور درمیانہ کا فرق 6 ہے۔ -46

وجہ(R): $-3 \text{ Median} = \text{Mode} + 2 \text{ Mean}$

دعویٰ(A): پہلے 12 مفرد اعداد کا درمیانہ $\frac{5}{12}$ ہے۔ -47

وجہ(R): درمیانہ = $\frac{\text{مشاہدات کا حاصل جمع}}{\text{مشاہدات کی تعداد}}$

دعویٰ(A): پانسہ کو ایک مرتبہ پھیکنے پر مفرد عدد حاصل ہونے کا احتمال $\frac{2}{3}$ ہے۔ -48

وجہ(R): پانسہ کے رخ پر مفرد اعداد 2, 3 اور 5 ہیں۔

دعویٰ(A): تاش کی گذی سے ایک پتا کالے پر لال اور کالے رنگ کا بادشاہ حاصل ہونے کا احتمال $\frac{7}{13}$ ہے۔ -49

وجہ(R): تاش کے پتوں کی کل تعداد 52 ہوتی ہے۔

50۔ دعویٰ (A): جب دو سکوں کو ایک ساتھ اچھائتے ہیں تو ٹیل حاصل ہونے کا احتمال $\frac{1}{4}$ ہے۔

وجہ (R): کسی وقوعہ (E) کا احتمال $P(E) \leq 1$ ، $P(E) \leq O$ کو مطمئن کرتا ہے۔

51۔ دعویٰ (A): ایک باکس میں 1 سے 100 تک اعدادوالے کارڈ ہیں جن میں باکس سے ایک کارڈ بلا منصوبہ طور پر نکالا گیا

احتمال $\frac{1}{2}$ ہے۔

$$P(E) = \frac{\text{موافق نتائج کی تعداد}}{\text{ممکنہ نتائج کی کل تعداد}}$$
 وجہ (R):

سوال نامہ برائے مشق – I

(سیکشن A)

اگر دو ثابت صحیح اعداد 'a' اور 'b' کا $a = x^3 y^3$ اور $b = xy^3$ کے طور پر لکھا جاتا ہے جہاں x, y مفرد اعداد ہیں تو ثابت صحیح اعداد کے حاصل ضرب کو (a,b) LCM سے تقسیم کرنے پر حاصل نتیجہ ہے:

$$xy^2 \quad (b) \quad xy \quad (a)$$


$$x^2y^3 \quad (d) \quad x^3y^3 \quad (c)$$

اگر $AP, b-1, p-1, 2p+3$ کسی AP کے مسلسل ارکان ہیں تو 'p' ہے:

$$4 \quad (b) \quad -2 \quad (a)$$

$$2 \quad (d) \quad 0 \quad (c)$$

شکل میں اگر TP اور TQ مرکزہ والے دائرہ کے دو مماسی خطوط اس طرح ہیں کہ $\angle POQ = 110^\circ$ ہے
:
 $\therefore \angle PTQ$



$$70^\circ \quad (b) \quad 60^\circ \quad (a)$$

$$90^\circ \quad (d) \quad 80^\circ \quad (c)$$

مساوی ہے: $\left[\frac{3}{4} \tan^2 30^\circ - \sec^2 45^\circ + \sin^{-2} 60^\circ \right]$ -4

$$\frac{5}{6} \quad (b) \quad -1 \quad (a)$$

$$\frac{1}{6} \quad (d) \quad \frac{-3}{2} \quad (c)$$

درج ذیل میں سے کون سے دو درجی کشیر کنی کے صفر $\frac{2}{3}$ اور $-\frac{2}{3}$ ہیں؟ -5

$$\frac{4}{9}(9x^2 + 4) \quad (b) \quad 4x^2 - 9 \quad (a)$$

$$5(9x^2 - 4) \quad (d) \quad x^2 + \frac{9}{4} \quad (c)$$

نقاط A(3,6) اور B(-12,-3) کو ملانے والے قطعہ خط کو x-محور کس نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔ -6

$$1:4 \quad (b) \quad 1:2 \quad (a)$$

$$2:1 \quad (d) \quad 4:1 \quad (c)$$

K کی وہ تدریکیا ہے جس کے لیے مساواتوں $6x = 2y + 3$ اور $kx = y + 2$ کی جوڑی کے لامناہی حل ہیں۔ -7

$$(b) \quad k = 3 \quad (a)$$

$$k = 4 \quad (d) \quad k = -3 \quad (c)$$

اگر طاولہ کی اونچائی اس کی پرچھائی / سائے کی لمبائی کے مساوی ہے تو سورج کا زاویہ ارتفاع ہے: -8

$$45^\circ \quad (b) \quad 30^\circ \quad (a)$$

$$90^\circ \quad (d) \quad 60^\circ \quad (c)$$

قطر 'd' والے نصف دائرہ کا رقبہ کیا ہوگا؟ -9

$$\frac{1}{4}\pi d^2 \quad (b) \quad \frac{1}{16}\pi d^2 \quad (a)$$

$$\frac{1}{2}\pi d^2 \quad (d) \quad \frac{1}{8}\pi d^2 \quad (c)$$

کو اگر $\cot\theta$ کے ارکان میں ظاہر کیا جائے تو یہ مساوی ہے: -10

$$\sqrt{1 + \cot^2 \theta} \quad (b) \quad \frac{1 + \cot^2 \theta}{\cot \theta} \quad (a)$$

$$\frac{\sqrt{1 - \cot^2 \theta}}{\cot \theta} \quad (d) \quad \frac{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}{\cot \theta} \quad (c)$$

اگر تین سکوں کو ایک ساتھ اچھا لاجاتا ہے تو کم از کم ایک ٹیل آنے کا احتمال کیا ہے؟ - 11

$$\frac{4}{8} \quad (\text{b}) \quad \frac{3}{8} \quad (\text{a})$$

$$\frac{7}{8} \quad (\text{d}) \quad \frac{5}{8} \quad (\text{c})$$

درج ذیل میں سے کون سی دو درجی مساوات کے جزوں کا حاصل جمع 4 ہے۔ - 12

$$-x^2+4x+4 = 0 \quad (\text{b}) \quad 2x^2-4x+8 = 0 \quad (\text{a})$$

$$4x^2-4x+4 = 0 \quad (\text{d}) \quad \sqrt{2}x^2 - \frac{4}{\sqrt{2}}x + 1 = 0 \quad (\text{c})$$

ایک علاقے میں 16 m اور 13 m قطر والے دو دائی پارکوں کے رقبوں کے حاصل جمع کے مساوی رقبہ والا ایک پارک بنانا ہے۔ پارک کا نصف قطر کیا ہو گا؟ - 13

$$15m \quad (\text{b}) \quad 10m \quad (\text{a})$$


$$24m \quad (\text{d}) \quad 20m \quad (\text{c})$$

ایک تھیلے میں 100 کارڈ ہیں جن پر 1 تار 100 اعداد درج ہیں۔ تھیلے سے ایک کارڈ کو بلا منصوبہ طور پر نکالا جاتا ہے۔ کامل کعب والے کارڈ حاصل ہونے کا احتمال کیا ہے؟ - 14

$$\frac{3}{50} \quad (\text{b}) \quad \frac{1}{20} \quad (\text{a})$$

$$\frac{7}{100} \quad (\text{d}) \quad \frac{1}{25} \quad (\text{c})$$

دی ہوئی شکل میں $\Delta ABC \sim \Delta QPR$ اور $PR = x$ cm، $QR = 3$ cm، $BC = 5$ cm، $AC = 6$ cm۔ اگر x کی تدریس ہے:- - 15



$$2.5\text{cm} \quad (\text{b}) \quad 3.6\text{cm} \quad (\text{a})$$

$$3.2\text{cm} \quad (\text{d}) \quad 10\text{cm} \quad (\text{c})$$

-16- ایک ٹیسٹ میں 80 طلباء کے ذریعے حاصل کردہ نمبروں کا بیٹاوے ذیل میں دیا گیا ہے۔

نمبر	کم سے کم 10	کم سے کم 20	کم سے کم 30	کم سے کم 40	کم سے کم 50	کم سے کم 60
طلبا کی تعداد	3	12	27	57	75	80

اس بیٹاوے کا مودول کلاس ہے:

- | | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 20–30 | (b) | 10–20 | (a) |
| 50–60 | (d) | 30–40 | (c) |

-17- نقطہ $(-2\sqrt{5}, 0)$ اور $(0, 2\sqrt{5})$ کے درمیان کا فاصلہ ہے:

- | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| $4\sqrt{10} \text{ units}$ | (b) | $2\sqrt{10} \text{ units}$ | (a) |
| 0 units | (d) | $2\sqrt{20} \text{ units}$ | (c) |

-18- ایک چارضلعی PQRS دائرہ کے محیط پر بنایا گیا ہے۔ اگر RS = 14cm, QR = 15cm, PQ = 12cm اور

SP کی لمبائی کیا ہوگی؟

- | | | | |
|------|-----|------|-----|
| 14cm | (b) | 15cm | (a) |
| 11cm | (d) | 12cm | (c) |

ب


ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں ان میں سے ایک بیان کو دعویٰ (A) اور دوسرے کو وجہ (R) کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
بیانات کو پڑھیے اور صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

- | | |
|---|--|
| (a) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں درست ہیں اور وجہ (R) دعویٰ (A) کی درست وضاحت کرتی ہے۔ | (b) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں درست ہیں لیکن وجہ (R) دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں ہے۔ |
| (c) دعویٰ (A) صحیح ہے لیکن وجہ (R) غلط ہے۔ | (d) دعویٰ (A) غلط ہے لیکن وجہ (R) درست ہے۔ |

دعویٰ (A): c, b, a تصاعد میں ہیں اگر صرف اور صرف $2b = a+c$ ہے۔ - 19

وجہ (R): پہلے 'n' طاقِ فطری اعداد کا حاصل جمع n^2 ہے۔

دعویٰ (A): لٹو کا کل سطحی رقبہ نصف کردہ کی خمیدہ سطح کے رقبہ اور مخروط کی خمیدہ سطح کے رقبہ کا حاصل جمع ہے۔ - 20



وجہ (R): لٹو کو نصف کرہ اور مخروط کی مستوی سطحوں کو ایک ساتھ ملا کر بنایا گیا ہے۔

B-سیکشن

وہ سب سے بڑا عدد معلوم کیجیے جس سے 185 اور 72 کو تقسیم کرنے پر بالترتیب اور 2 باقی پتھا ہے۔ - 21


$$\text{اگر } \sin \theta \cos \theta \text{ ہے تو } \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{3} \quad \text{اگر } \text{قدار معلوم کیجیے۔}$$

یا

$$\text{اگر } \frac{3}{4} \text{ ہے تو } p \text{ کی قدر معلوم کیجیے۔}$$

دی ہوئی شکل میں XZ اور BC متوازی ہیں۔ اور $MC = 5\text{cm}$, $BM = 3\text{cm}$, $ZC = 2\text{cm}$, $AZ = 3\text{cm}$ اور - 23

ہے تو XY کی لمبائی معلوم کیجیے۔




مذکورہ ΔABC کے راس A, B اور C کو مرکزان کر 14cm نصف قطر کے توں کھینچنے گئے ہیں اور اس طرح حاصل ہونے والے مثلث کے تینوں حصوں کو علاحدہ کر دیا گیا ہے۔ مثلث سے علاحدہ کیے گئے حصوں کا کل رقبہ معلوم کیجیے۔

یا

اس دائرہ کا قطر معلوم کیجیے جس کا رقبہ 40cm^2 اور 90cm والے دو دائروں کے رقبوں کا حاصل جمع ہے۔

دی ہوئی شکل میں O، دائرہ کا مرکز ہے۔ اور AB نقطہ A سے کھینچ گئے مماس خطوط ہیں۔ اگر $\angle BAC = 60^\circ$ ہے تو ΔBOC کی پیمائش بتائیے۔ -25



سیکشن-C

دو اعداد کے فرق کا نصف 2 ہے۔ بڑے عدد اور چھوٹے عدد کے دو گنے کا حاصل جمع 13 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔ -26


یا

اگر خطی مساواتوں $7 = 2Qx + (Q+b)y$ اور $28 = 2x + 3y$ کے نظام کے لامحدود حل ہیں تو 'a' اور 'b' کی قدریں معلوم کیجیے۔

مفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے اعداد 1818° اور 7575° کے اجزاء ضربی معلوم کیجیے۔ دونوں اعداد کا HCF بھی معلوم کیجیے۔ -27

$$\left(\frac{1}{\cos\theta} - \cos\theta \right) \left(\frac{1}{\sin\theta} - \sin\theta \right) = \frac{1}{\tan\theta + \cot\theta} \quad -28$$

دی ہوئی شکل میں چارضلعی $\angle ABCD$ کو دائرہ کے اندر بنایا گیا ہے۔ جس میں $B=90^\circ$ ہے۔ اگر $AD = 17\text{cm}$ اور $DS = 3\text{cm}$ اور $AB = 20\text{cm}$ ہے تو دائرہ کا نصف قطر معلوم کیجیے۔ -29



یا

دو ہم مرکز دائرے کے نصف قطر 5cm اور 3cm ہیں۔ بڑے دائرہ کے وزیر کی لمبائی معلوم کیجیے جو چھوٹے دائرہ کو چھوتا ہے۔

دودرجی کشیر کرنی 1+45-44² کے صفر معلوم کیجیے نیز صفروں اور ضریبوں کے درمیان رشتہ کی تصدیق کیجیے۔ - 30

درج ذیل بہاؤ کا درمیانہ 25 ہے۔ a° کی تدریج معلوم کیجیے اور اعداد و شمار کا مودہ بھی معلوم کیجیے۔ - 31

کلاس وقفہ	تواتر (تعداد)	10-20	20-30	30-40	40-50
5	18	15	Q	6	


C-سیکشن

ایک ریل گاڑی 360km کا سفر کیساں چال سے طے کرتی ہے۔ اگر چال 5km/h زیادہ ہوتی تو اسی سفر کو طے کرنے میں 1 گھنٹہ کم وقت لگتا۔ ریل گاڑی کی چال معلوم کیجیے۔ - 32

یا

ایک موٹر بوٹ کی چال ٹھہرے ہوئے پانی میں 18km/h ہے۔ یہ موٹر بوٹ 24km/h بہاؤ کی مخالف سمت میں جانے میں بہاؤ کی سمت میں واپس آنے کے مقابلے 1 گھنٹہ زیادہ وقت لیتی ہے۔ پانی کے بہاؤ کی چال معلوم کیجیے۔

لکڑی کا ایک سامان ٹھوس استوانہ کے دونوں سروں سے ایک نصف کروی شکل کو علاحدہ کر کے بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اگر استوانہ کی اوپرائی 10cm اور قاعده کا نصف قطر 3.5cm ہے۔ اس سامان کا کل سطحی رقبہ معلوم کیجیے۔ - 33



درج ذیل اعداد و شمار کا وسطانیہ 50 ہے۔ p اور q کی تدریج معلوم کیجیے اگر سبھی تعداد کا حاصل جمع 90 ہے۔ مودہ بھی معلوم کیجیے۔ - 34

حاصل کردہ نمبر	p	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
طلباً کی تعداد	15	p	25	20	q	8	10	10

یا

ایک طالب علم کے سڑک پر کس مقام سے 3 منٹ کے 100 وقوف میں گزرنے والی کاروں کی تعداد کو نوٹ کیا اور انہیں درج ذیل جدول میں درج کیا۔ درج ذیل اعداد و شمار کا درمیانہ اور وسطانیہ معلوم کیجیے۔

کاروں کی تعداد	تعداد (وقہ)
70-80	8
60-70	15
50-60	11
40-50	20
30-40	12
20-30	13
10-20	14
0-10	7

اگر مثلث کے کسی ضلع کے متوازی خط کھینچنا جائے جو دیگر دو اضلاع کو ممیز نقطوں پر قطع کرتا ہے تو ثابت کیجیے کہ دیگر دونوں اضلاع ایک ہی نسبت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ 35-

E-سیکشن

I-نظیری مطالعہ

افرادی قوت کی کم لaggت اور مضبوط تنقیبی اور انجینئرنگ صلاحیتوں کی وجہ سے ہندوستان مسابقاتی مینپیکچر گگ کا مقام ہے۔ جو اعلیٰ معیار کی پیداوار میں تعاون کر رہا ہے۔ ایک فیکٹری میں ٹی وی سیٹ کی پیداوار میں ہر سال مقررہ تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فیکٹری میں چھٹے سال میں 16000 سیٹ اور نویں سال میں 22600 سیٹ تیار ہوئے۔

(i) کسی سال پیداوار 2000 ہے۔

(ii) 8 ویں سال میں کتنے سیٹ تیار ہوئے۔

یا

پہلے 3 سال کے دوران پیداوار معلوم کیجیے۔

(iii) 7 ویں اور چوتھے سال کے دوران پیداوار میں فرق معلوم کیجیے۔




نظیری مطالعہ-II

ریڈیوٹاور، ریڈیوٹلی ویژن سمیت متعدد موافقی خدمات کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹاور یا تو خود ایک انٹینا کے طور پر اپنے کام کرے گا یا اس پر ایک یا ایک سے زیادہ انٹینا کو لگایا جائے گا۔

اسی قسم کے تصویر پر منی ایک ریڈیو اسٹیشن ٹاور کو دو سیکشن A اور B میں بنایا گیا ہے۔ ٹاور کو نقطہ O سے تاروں کے ذریعے مدد فراہم کی جاتی ہے۔

ٹاور کے اساس اور نقطہ O کے درمیان 36 cm کا فاصلہ ہے۔ نقطہ O سے سیکشن B کی چوڑی کا زاویہ ارتفاع 30° اور سیکشن A کی چوڑی کا زاویہ ارتفاع 45° ہے۔



درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

(i) نقطہ O سے سیکشن B کی چوڑی تک تار کی لمبائی معلوم کیجیے۔

(ii) فاصلہ AB معلوم کیجیے۔


یا

ΔOPB کا رقبہ معلوم کیجیے۔

(iii) ٹاور کے اساس سے سیکشن A کی اونچائی معلوم کیجیے۔

ناظیری مطالعہ-III

جگد لیش کے پاس ایک کھیت ہے جو مثلث AQC کی شکل میں ہے وہ کھیت کے اندر ریہوں اگانے کے لیے مریع $PQRS$ کی شکل میں کچھ جگہ چھوڑنا چاہتا ہے اور باقی حصے میں سبز یا اگانا چاہتا ہے (جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے) کھیت میں ایک کھمبہ ہے جس کی نشاندہی O کے ذریعے کی گئی ہے۔



درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

(i) O کو مبدامان کر P کے خصائص (0, -200) اور Q کے خصائص (200, 0) ہیں۔ $PQRS$ ایک مریع ہے، اور S کے خصائص کیا ہوں گے؟

(ii) مریع $PQRS$ کا رقبہ کیا ہے؟

یا

PR کی لمبائی معلوم کیجیے۔

(iii) اگر S, A کو CA کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے تو k کی قدر کیا ہو گی نقطہ $(200, 800)$ ہے۔

جوابات

Section-I

- 1- (b) xy^2
- 2- (c) 0
- 3- (b) 70°
- 4- (a) -1
- 5- (d) $5(9x^2 - 4)$
- 6- (d) 2:1
- 7- (b) does not exist.
- 8- (b) 45°
- 9- (c) $\frac{1}{8}\pi d^2$
- 10- (c)
$$\frac{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}{\cot \theta}$$
- 11- (b) $\frac{4}{8}$
- 12- (a) $2x^2 - 4x + 8 = 0$
- 13- (a) 10m
- 14- (c) $\frac{1}{25}$
- 15- (b) 2.5cm
- 16- (c) 30 – 40
- 17- (a) $2\sqrt{10}$ units
- 18- (d) 11cm

- 19- (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
- 20- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).

Section-B

21- $85 - 1 = 84$

$72 - 2 = 70$

$\text{HCF}(84, 70) = 14$

\therefore required number is 14.

22- $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{3}$

Squaring both sides, we get

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta = 3$$

$$\Rightarrow 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = 3$$

$$\Rightarrow \sin \theta \cos \theta = 1$$

OR

$$4(1)^2 - (2)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + p = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow p = 0$$

23- $\Delta AYZ \sim \Delta AMC$

$$\therefore \frac{AZ}{ZC} = \frac{AY}{YM} \quad \dots (1)$$

$$\Delta AXB \sim \Delta ABM$$

$$\therefore \frac{AY}{YM} = \frac{XY}{BM} \quad \dots (2)$$

from (1) and (2), we get

$$\begin{aligned}\frac{AZ}{ZC} &= \frac{XY}{BM} \\ \Rightarrow \frac{3}{2} &= \frac{XY}{3} \\ \Rightarrow XY &= 4.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

24- Required area $\frac{22}{7} \times \frac{(14)^2 \times 180^\circ}{360^\circ} = 308 \text{ cm}^2$

OR

$$\pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 = \pi(40)^2 + \pi(9)^2$$

$$\Rightarrow d = 82 \text{ cm}$$

25- $\angle BOC = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$

Section-C

26- Let two numbers be x & y such that $x > y$

A.T.Q.

$$\frac{1}{2}(x-y) = 2 \Rightarrow x - y = 4 \quad \dots\dots(1)$$

$$x + 2y = 13 \quad \dots\dots(2)$$

solving (1) and (2), we get $x = 7$ and $y = 3$

OR

For infinite number of solutions

$$\frac{2}{2a} = \frac{3}{a+b} = \frac{7}{28}$$

Solving it, we get $a = 4$ and $b = 8$

27- $18180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 101$

$$7575 = 3 \times 5^2 \times 101$$

$$\text{LCM} = 2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 101 = 90900$$

$$\text{HCF} = 3 \times 5 \times 101 = 1515$$

28- $\text{LHS} = \left(\frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos \theta} \right) \times \left(\frac{1 - \sin^2 \theta}{\sin \theta} \right) = \frac{\sin \theta \times \cos^2 \theta}{\cos \theta \times \sin \theta} = \sin \theta \times \cos \theta$

$$\text{RHS} = \frac{1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}} = \frac{\sin \theta \times \cos \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \sin \theta \times \cos \theta$$

$$\therefore \text{LHS} = \text{RHS}$$


29- $AQ = AR = AD - DR = AD - DS = 17 - 3 = 14 \text{ cm}$

$$QB = AB - AQ = 20 - 14 = 6 \text{ cm}$$

OPBQ is a square.

$$\therefore r = QB = 6 \text{ cm}$$

OR



$$AP = \sqrt{(5)^2 - (3)^2} = 4 \text{ cm}$$

$$AB = 2AP = 2 \times 4 = 8 \text{ cm}$$

30- $4s^2 - 4s + 1$

$$= (2s - 1)(2s - 1)$$

Zeroes are $\frac{1}{2}$ nad $\frac{1}{2}$

$$\text{Sum of the zeroes} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 = \frac{-(-4)}{4} = \frac{-\text{coefficient of } s}{\text{coefficient of } s^2}$$

$$\text{Product of the zeroes} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \frac{\text{constant term}}{\text{coefficient of } s^2}$$

31-

C.I.	f_i	x_i	$f_i x_i$
0-10	5	5	25
10-20	18	15	270
20-30	15	25	375
30-40	a	35	35a
40-50	6	45	270
Total	44+a		940+35a

$$25 = \frac{940 + 35a}{44 + a}$$

$$\Rightarrow a = 16$$

Modal Class: 10–20

$$\text{Mode} = 10 + \left(\frac{18 - 5}{2 \times 18 - 5 - 15} \right) \times 10$$

$$= 18.125$$

Section-D

32- Let the speed of the train be x km/h

ATQ

$$\frac{360}{x} - \frac{360}{x+5} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + 5x - 1800 = 0$$

$$\Rightarrow (x + 45)(x - 40) = 0$$

$$\therefore x = -45 \text{ or } x = 40$$

But speed is always positive.

So, speed of the train is 40 km/h.

OR

Let the speed of the stream be x km/h

ATQ

$$\frac{24}{18-x} - \frac{24}{18+x} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + 48x - 324 = 0$$

$$\Rightarrow (x + 54)(x - 6) = 0$$

$$\therefore x = -54 \text{ or } x = 6$$

But speed is always positive.

So, speed of the stream is 6 km/h

33- $TSA = \left(\frac{22}{7} \times (3.5)^2 \times 10 \right) + \left(2 \times 2 \times \frac{22}{7} \times (3.5)^2 \right)$
 $= 539 \text{ cm}^2$

34-

Marks obtained	Number of Students (f_i)	cf
20 – 30	p	p
30 – 40	15	p + 15
40 – 50	25	p + 40
50 – 60	20	p + 60
60 – 70	q	p + q + 60
70 – 80	8	p + q + 68
80 – 90	10	p + q + 78

Median class: 50 – 60

$$50 = 50 + \left(\frac{\left(\frac{90}{2}\right) - (p + 40)}{20} \right) \times 10$$

$$\Rightarrow p = 5$$

$$p + q + 78 = 90$$

$$\Rightarrow 5 + q + 78 = 90$$

$$\Rightarrow q = 7$$

Modal Class: 40 – 50

$$\begin{aligned} \text{Mode} &= 40 + \left(\frac{25 - 15}{2 \times 25 - 15 - 20} \right) \times 10 \\ &= 46 \frac{2}{3} \end{aligned}$$

OR

Number of cars	f_i	x_i	u_i	$f_i u_i$	cf
0 – 10	7	5	-3	-21	7
10 – 20	14	15	-2	-28	21
20 – 30	13	25	-1	-13	34
30 – 40	12	$35 = a$	0	0	46
40 – 50	20	45	1	20	66
50 – 60	11	55	2	22	77
60 – 70	15	65	3	45	92
70 – 80	8	75	4	32	100
Total	100			57	

$$\text{Mean} = 35 + \frac{57}{100} \times 10 = 40.7$$

Median class: 40 – 50

$$\text{Median} = 40 + \left(\frac{\frac{100}{2} - 46}{20} \right) \times 10$$

$$= 42$$

35- Correct figure, given, to prove, construction and proof.

Section-E

36- $a_6 = a + 5d = 16000$ and $a_9 = a + 8d = 22600$

$$\therefore a = 5000 \text{ and } d = 2200$$

(i) $29200 = 5000 + (n - 1) \times 2200$

$$\Rightarrow n = 12$$

(ii) $a_8 = 5000 + 7 \times 2200 = 20400$

OR

$$S_3 = \frac{3}{2} \times [2 \times 5000 + 2 \times 2200] = 21600$$

(iii) $a_7 - a_4 = (a + 6d) - (a + 3d) = 3d = 3 \times 2200 = 6600$

37- (i) $BO = 24\sqrt{3} \text{ cm}$

(ii) $BP = 12\sqrt{3} \text{ cm}$ and $AP = 36 \text{ cm}$

OR

$$AB = AP - BP = (36 - 12\sqrt{3}) \text{ cm}$$

(iii) $AP = 36 \text{ cm}$

38- (i) $R \leftrightarrow (200, 400)$ and $S \leftrightarrow (-200, 400)$

(ii) $PQ = 400 \text{ units}$

$$\text{ar (PQRS)} = 160000 \text{ square units}$$

OR

$$PQ = 400 \text{ units}$$

$$\therefore PR = 400\sqrt{2} \text{ units}$$

(iii) $C \leftrightarrow (-600, 0)$ and $A \leftrightarrow (200, 800)$

$$400 = \frac{0 \times 1 + 800 \times k}{k+1} \Rightarrow = 1$$

سوال نامہ برائے مشق-II

عام ہدایات :

- 1 سوال نامہ پانچ سیکشن A، B، C، D اور E میں منقسم ہے۔
- 2 سیکشن A میں تبادل جواب والے 20 سوالات ہیں۔ ہر سوال 1 نمبر کا ہے۔
- 3 سیکشن B میں 5 سوالات ہیں۔ ہر سوال 2 نمبر کا ہے۔
- 4 سیکشن C میں 6 سوالات ہیں۔ ہر سوال 3 نمبر کا ہے۔
- 5 سیکشن D میں 4 سوالات ہیں۔ ہر سوال 5 نمبر کا ہے۔
- 6 سیکشن E میں 3 سوالات ہیں۔ ہر سوال 5 نمبر کا ہے۔
- 7 سچی سوالات لازمی ہیں۔ حالاں کہ 5 نمبر والے 2 سوالوں میں، 3 نمبر والے 2 سوالوں میں اور 2 نمبر والے 2 سوالوں میں داخلی انتخاب دیا گیا ہے۔ سیکشن E میں 2 نمبر والے سوالوں میں داخلی انتخاب دیا گیا ہے۔
- 8 جہاں ضروری ہو صاف سفری شکل بنائیے۔ اگر سوال میں دیا ہوئیں ہے تو $\frac{22}{7} = \pi$ کا استعمال کیجیے۔
- 9 کیلکولیٹر کا استعمال منوع ہے۔
- 10 سوال کا جواب لکھنے سے پہلے سوال کا نمبر ضرور لکھیں۔

سیکشن-A

سیکشن A میں 1 نمبر والے 20 سوالات ہیں۔ دیے گئے تبادلات میں سے درست تبادل کا انتخاب کیجیے۔

- 1 عدد $3^{10} - 3^{13}$ قابل تقسیم ہے۔
 - (a) 1 اور 3 سے
 - (b) 3 اور 10 سے
 - (c) 2 اور 3 سے
 - (d) 2، 3 اور 13 سے

یک دوسری کثیر کنی کے صفر وں کا حاصل جمع ضرب بالترتیب 3 اور 10 ہے۔ دوسری کثیر کنی ہے: -2

$$x^2 + 3x - 10 \quad (b) \quad x^2 - 3x + 10 \quad (a)$$

$$x^2 + 3x + 10 \quad (d) \quad x^2 - 3x - 10 \quad (c)$$

نقاط (7, 2) اور (-1, 0) درج ذیل میں سے کون سے خط پر واقع ہیں؟ -3

$$4y - x + 1 \quad (b) \quad 7y - 3x - 7 \quad (a)$$

$$x = 4y + 1 \quad (d) \quad y - 7x + 7 \quad (c)$$

دیا ہے DF = 15 cm, AC = 7 cm, AB = 5 cm اس طرح ہے کہ $\Delta ABC \sim \Delta EDF$ اور -4

مثلث کے باقی اضلاع کا حاصل جمع ہے:

$$16.8 \text{ cm} \quad (b) \quad 23.05 \text{ cm} \quad (a)$$

$$24 \text{ cm} \quad (d) \quad 6.25 \text{ cm} \quad (c)$$

اگر ایک AP کا مشترک فرق 5 ہے تو $(a_{18} - a_{13})$ کی قدر ہے: -5

$$20 \quad (b) \quad 5 \quad (a)$$

$$30 \quad (d) \quad 25 \quad (c)$$

$(\cos^2 45^\circ + \sec^2 45^\circ)$ کی قدر ہے: -6

$$\frac{5}{2} \quad (b) \quad \frac{3}{2} \quad (a)$$

$$\frac{9}{2} \quad (d) \quad \frac{7}{2} \quad (c)$$

اگر ایک نصف دائری میدان کا رقبہ 15400 m^2 ہے تو میدان کا احاطہ ہے: -7

$$260\sqrt{2}m \quad (b) \quad 160\sqrt{2}m \quad (a)$$

$$460\sqrt{2}m \quad (d) \quad 360\sqrt{2}m \quad (c)$$

اگر نقطہ (4,3) A اور (x,5) B میں میں اے پر واقع ہیں تو x کی قدر ہے: -8

$$2 \quad (b) \qquad \qquad \qquad 3 \quad (a)$$

$$0 \quad (d) \qquad \qquad \qquad 1 \quad (c)$$

$$\frac{5\sin\theta - 3\cos\theta}{5\sin\theta + 3\cos\theta} \text{ کی قدر ہے تو } 5\tan\theta = 4\sqrt{3} \quad -9$$

$$\frac{1}{5} \quad (b) \qquad \qquad \qquad \frac{1}{7} \quad (a)$$

$$\frac{3}{5} \quad (d) \qquad \qquad \qquad \frac{1}{4} \quad (c)$$

اگر 75m اونچا اور سکی شے کا زاویہ جھکا 30° ہے تو اور سے شے کا افقی فاصلہ ہے: -10

$$75\sqrt{3}m \quad (b) \qquad \qquad \qquad 150\sqrt{3}m \quad (a)$$

$$25\sqrt{3}m \quad (d) \qquad \qquad \qquad 50\sqrt{3}m \quad (c)$$

اگر نقطہ (4,p) A اور (1,0) B کے درمیان کا فاصلہ 5 کا کلی ہے تو p کی قدر ہے: -11

$$-4 \quad \text{صرف} \quad (b) \qquad \qquad \qquad 4 \quad \text{صرف} \quad (a)$$

$$0 \quad (d) \qquad \qquad \qquad \pm 4 \quad (c)$$

اگر اعداد شمار کے مود (بہتائیہ) اور سلطانیہ کا فرق 24 ہے تو سلطانیہ اور درمیانہ کا فرق ہوگا: -12

$$24 \quad (b) \qquad \qquad \qquad 12 \quad (a)$$

$$48 \quad (d) \qquad \qquad \qquad 36 \quad (c)$$

اگر کرہ کے نصف قطر میں 100% کا اضافہ کر دیا جائے تو کرہ کے جنم میں کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ -13

$$500\% \quad (b) \qquad \qquad \qquad 200\% \quad (a)$$


$$800\% \quad (d) \qquad \qquad \qquad 700\% \quad (c)$$

کس قدر کے لیے دو درجی مساوات $2x^2 - kx + k = 0$ کے جذر مساوی ہیں۔ -14

$$4 \quad (b) \qquad \qquad \qquad 0,4 \quad (a)$$

$$0,8 \quad (d) \qquad \qquad \qquad 8 \quad (c)$$

شکل میں، نصف قطر والے دائرے کے یہ ونی نقطے P سے خط ماس PT اس طرح کھینچا گیا ہے کہ $PT = 24 \text{ cm}$ - 15
ہے۔ اگر دائرہ کا مرکز O ہے تو PR کی لمبائی ہے:



28 cm

(b)

30 cm

(a)

25 cm

(d)

32 cm

(c)

اگر نقطہ C (2,6) اور B (5,1) کو ملانے والے قطعہ خط کو 3:2 میں تقسیم کرتا ہے۔ k، کی قدر ہے: - 16

$$\frac{14}{5}$$

(b)

$$\frac{16}{5}$$

(a)

$$\frac{11}{5}$$

(d)

$$\frac{12}{5}$$

(c)

اگر دو ہم مرکز دائروں کے نصف قطر 4 cm اور 5 cm ہیں تو دائرہ کے ہر ایک اس وتر کی لمبائی کیا ہوگی جو دوسرا دائرہ پر مماس ہے۔ - 17

6 cm

(b)

3 cm

(a)

1 cm

(d)

9 cm

(c)

ایک لاطری کے لاط میں 5 ٹکٹ انعام والے اور 20 ٹکٹ بغیر انعام والے ہیں۔ لاطری میں انعام حاصل ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟ - 18

$$\frac{3}{4}$$

(b)

$$\frac{1}{4}$$

(a)

$$\frac{1}{5}$$

(d)

$$\frac{4}{5}$$

(c)

19۔ ذیل میں دو بیانات دیئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک بیان کو دعویٰ (A) اور دوسرے کو وجہ (R) کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
بیانات کو پڑھیے اور صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

$$\sin(A + B) = \sin A + \sin B : \text{دعویٰ (A)}$$

وجہ (R): θ کی کسی بھی قدر کے لیے $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ ہے۔


- (a) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں درست ہیں اور وجہ (R)، دعویٰ (A) کی درست وضاحت کرتی ہے۔
- (b) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں درست ہیں لیکن وجہ (R)، دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں کرتی ہے۔
- (c) دعویٰ (A) صحیح ہے لیکن وجہ (R) غلط ہے۔
- (d) دعویٰ (A) غلط ہے لیکن وجہ (R) درست ہے۔

20۔ ذیل میں دو بیانات دیئے گئے ہیں۔ ان میں ایک بیان کو دعویٰ (A) اور دوسرے کو وجہ (R) کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
بیانات کو پڑھیے اور صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔

دعویٰ (A): دی ہوئی شکل میں $PA \parallel QB \parallel RC \parallel SD$ ہے۔

وجہ (R): اگر تین یا تین سے زیادہ قطعات خط ایک خط پر عمود ہیں تو وہ ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔


- (a) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں درست ہیں اور وجہ (R)، دعویٰ (A) کی درست وضاحت کرتی ہے۔
- (b) دعویٰ (A) اور وجہ (R) دونوں درست ہیں لیکن وجہ (R)، دعویٰ (A) کی درست وضاحت نہیں کرتی ہے۔
- (c) دعویٰ (A) صحیح ہے لیکن وجہ (R) غلط ہے۔
- (d) دعویٰ (A) غلط ہے لیکن وجہ (R) درست ہے۔




سیکشن - B

سیکشن B میں 5 سوالات ہیں اور ہر سوال 2 نمبر کا ہے۔

- 21 دی ہوئی شکل میں ایک دائرة چارضلعی ABCD کے چاروں اضلاع کو چھوٹتا ہے۔ اگر $BC = 9 \text{ cm}$, $AB = 6 \text{ cm}$ اور $CD = 8 \text{ cm}$ ہے تو AD کی لمبائی معلوم کیجیے۔




- شکل میں O دائرة کا مرکز ہے۔ ایک وتر ہے اور PQ پر خط مماس ہے جو PQ کے ساتھ 50° کا زاویہ بناتا ہے۔ معلوم کیجیے $\angle POQ$ ۔



- 22 اگر α اور β کشیر کنی $5x^2 - 4x - \alpha^2 + \beta^2$ کے صفر ہیں تو $\alpha^2 + \beta^2$ کی قدر معلوم کیجیے۔

- 23 دی ہوئی شکل میں $DE \parallel AB$ اور $\angle A = \angle B$ ہے۔ دکھائیے کہ $AD = BE$ ۔



درج ذیل بٹاؤ کا مودود (بہت ایسے) معلوم کیجیے۔ 24-

کلاس	تعداد
40–45	3
35–40	8
30–35	9
25–30	10
20–25	3
15–20	2

درج ذیل مساواتوں کو 'x' اور 'y' کے لیے حل کیجیے۔ 25-

$$32x + 33y = 34$$

$$33x + 32y = 31$$

یا

'p' اور 'q' کی کس قدر کے لیے مساوات $2x + by = 4$ اور $2q + 2x + 3y = 4$ لا محدود حل ہوں گے؟

C- سیکشن

سیکشن C میں 6 سوالات ہیں اور ہر سوالات 3 نمبر کا ہے۔

اگر (4,b), C (4,b), D (1,2) اور A (-2,1), B (a,0) متوازی الاضلاع ABCD کے راس ہیں تو 'a'، اور 'b'، کی قدریں معلوم کیجیے نیز اس کے اضلاع کی لمبائی بھی معلوم کیجیے۔ 26-

یا


خط (2,1) A اور (5,-8) B کو ملانے والے قطعہ خط کو نقطہ 'P' اور 'Q'، اس طرح تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ A,P,Q کے قریب ہے۔ اگر نقطہ P دیے ہوئے خط $0 = -y + 2x + k$ پر بھی واقع ہے تو 'k'، کی قدر معلوم کیجیے۔

پیٹر دوالگ الگ پانے ایک ساتھ چینتا ہے اور حاصل ہونے والے دونوں اعداد کا حاصل ضرب معلوم کرتا ہے۔ رینا ایک پانہ چینتی ہے اور حاصل عدد کا مرتع معلوم کرتی ہے۔ عدد 25 حاصل کرنے کا بہتر موقع کس کے پاس ہے؟ 27-

نصف قطر والے دائرے کے اصغر قطعہ کا رقبہ معلوم کیجیے اگر ظیہری سیکٹر کا زاویہ 60° ہے۔ $(\sqrt{3} = 1.73)$ 28-

اسکول کے پینٹنگ مقابلے میں ایک بچے نے تو می پرچم بنایا جس کا احاطہ 50cm ہے۔ اگر اس کی لمبائی 3cm کی کی اور چوڑائی میں 2cm کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کا رقبہ 6 cm^2 کم ہو جاتا ہے۔ پرچم (جنڈے) کے ابعاد معلوم کیجیے۔ 29-

-30 ABC میں AD وسطانیہ ہے اور O، AD پر کوئی نقطہ ہے۔ اور CO آگے بڑھانے پر AB اور AC کو بالترتیب 'E' اور 'F' پر ملتے ہیں۔ اب AD کو 'X' تک اس طرح بڑھایا گیا ہے کہ $OD = DX$ ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ثابت کیجیے کہ $EF \parallel BC$



دو چھپے جس کی اونچائی 'a'، اکائی اور 'b'، اکائی ہے (جہاں $a > b$) ایک دوسرے سے 'p'، اکائی کے فاصلے پر ہیں۔ ثابت کیجیے کہ ہر ایک چھپے کی چوٹی کو مقابل چھپے کے پائے سے ملانے والے خطوط کے نقطے تقاطع کی اونچائی $\frac{ab}{a+b}$ اکائی ہے۔

$$\text{ثابت کیجیے کہ} \quad -31$$

$$\frac{\cot \theta + \cos ec \theta - 1}{\cot \theta - \cos ec \theta + 1} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$$

D- سیکشن

سیکشن D میں 4 سوالات ہیں اور ہر سوال 5 نمبر کا ہے۔

-32 زمین پر واقع ایک نقطے سے ہوائی جہاز کا زاویہ ارتفاع 60° ہے۔ 30 سینٹرڈ کی پرواز کے بعد زاویہ ارتفاع 30° ہو جاتا ہے۔ اگر ہوائی جہاز 720 km/h کی چال سے ایک مقررہ اونچائی پر پرواز کر رہا ہے تو ہوائی جہاز کی اونچائی معلوم کیجیے۔

یا

ایک ٹاور کے پائے سے کسی عمارت کی چوٹی کا زاویہ ارتفاع 60° ہے اور عمارت کے پائے سے ٹاور کی چوٹی کا زاویہ ارتفاع 30° ہے۔ اگر ٹاور کی اونچائی 50m ہے تو عمارت اور ٹاور کی اونچائی کا فرق معلوم کیجیے۔

ثابت کیجیے کہ $\sqrt{2}$ ایک غیر ناطق عدد ہے۔ ثابت کیجیے کہ $6 + \sqrt{2}$ بھی ایک غیر ناطق عدد ہے۔ - 33

ایک عمارت استوانہ کی شکل کا ہے جس کے اوپر ایک نصف کرتی گنبد بناتا ہوا ہے۔ اس عمارت میں $\frac{1}{21} m^2$ 67 ہوا ہے۔ - 34

اگر گنبد کا اندر وہی قطر فرش سے اس کی کل اوپرائی کا $\frac{2}{3}$ ہے تو عمارت کی کل اوپرائی معلوم کیجیے۔

یا

ایک ٹھوڑا کھلونا نصف کرہ کی شکل کا ہے جس کے اوپر مساوی نصف قطر کا قائم دائری مخروط ہے۔ مخروط کی اوپرائی 10 cm اور قاعدہ (اساس) کا نصف قطر 7 cm ہے۔ کھلونے کا جم معلوم کیجیے۔ اس کھلونے کو ڈھلنے کے لیے درکار رینگین شیٹ کا رقبہ معلوم کیجیے۔ -


$$\pi = \frac{22}{7} \text{ اور } \sqrt{145} = 12.2$$

ایک AP میں 37 ارکان ہیں۔ سب سے درمیان میں واقع تین ارکان کا حاصل جمع 225 اور سب سب آخر والے تین ارکان کا حاصل جمع 429 ہے۔ AP معلوم کیجیے۔ اس کے پہلے 10 ارکان کا حاصل جمع بھی معلوم کیجیے۔ - 35

E-سیکشن

I-نظری مطالعہ

ایک طالب علم نے مرکز A اور مرکز B والے دو دائرے بنائے جن کے نصف قطر با ترتیب 6 cm اور 4 cm ہیں اور یہ ایک دوسرے کو یہودی طور پر نقطہ K پر چھوٹے ہیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ - 36



(i) PK کی قدر معلوم کیجیے۔

(ii) QK کی قدر معلوم کیجیے۔

(iii) مثلث ASP اور BTQ کے احاطہ کی نسبت معلوم کیجیے۔

یا

PQ کی قدر معلوم کیجیے۔

نظیری مطالعہ-II

37- کچھ طلبانے پنک پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ پنک کا کل بجٹ 20000 روپے تھا لیکن 5 طلباء پنک میں شامل نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے ہر ایک طالب علم کو 2000 روپے کا اضافی تعاون کرنا پڑا۔

مذکورہ بالا معلومات کی بنیاد پر درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

(i) اس صورت حال کو بیان کرنے کے لیے دور جی مساوات بنائیے۔

(ii) پنک کا منصوبہ بنانے والے طلباء کی تعداد کتنی تھی؟

(iii) اگر مشروبات اور داخلہ لٹکٹ کی قیمت بالترتیب 30 روپے اور 15 روپے فی طالب علم ہے تو طلبانے کل کتنی رقم ادا کی؟

یا

اگر سفر کا خرچ 50 روپے فی طالب علم ہے تو سفر پر کتنی رقم خرچ ہوئی؟

نظیری مطالعہ-III

38- کسی مخصوص دن 71 لوگوں کے ایک گروپ نے میوزیم کا دورہ کیا۔ درج ذیل جدول میں ان کی عمروں کو ظاہر کیا گیا ہے۔

عمر (سالوں میں)	افراد کی تعداد
10 سے کم	3
20 سے کم	10
30 سے کم	22
40 سے کم	40
50 سے کم	54
60 سے کم	71

(i) درج بالا اعداد و شمار کو کلاس وقفہ اور اس کے نظیری تعداد کو ظاہر کرتے ہوئے تبدیل کیجیے۔

(ii) 30-40 عمر گروپ کے افراد کے ذریعے خرچ کی کل رقم معلوم کیجیے۔

(iii) درج بالا اعداد و شمارک او سلطانیہ معلوم کیجیے۔

یا

درج بالا اعداد و شمارک او رمیانہ معلوم کیجیے۔

نوت

نوت

نوت